

# SENATE OF PAKISTAN

## SENATE DEBATES

Tuesday, February 14, 1989

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall, (Parliament House), Islamabad, at 11.00 of the clock in the morning, with Mr. Deputy Chairman (Syed Muhammad Fazal Agha) in the Chair.

(RECITATION FROM THE HOLY QUR'AN)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ  
بَيْنَكُمْ وَكَأَنَّ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ  
بِنَاتِهِ ثُمَّ يَسِيلُ فِي فَتْرَانِهِ مُمْصِرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ  
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا  
صَدَاحُ الْعُرُودِ -

ترجمہ: جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشیا اور زینت و آرائش اور تمہارے  
آپس میں فخر و تالش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔  
اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کانوں کو کھیتی بھی لگتی ہے  
پھر وہ خوب زور پر آجاتی ہے پھر اسے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے پک کر زرد  
پڑ جاتی ہے پھر چپرا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں کافروں کے لئے عذاب شدید

# SENATE OF PAKISTAN

## SENATE DEBATES

Tuesday, February 14, 1989

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall, (Parliament House), Islamabad, at 11.00 of the clock in the morning, with Mr. Deputy Chairman (Syed Muhammad Fazal Agha) in the Chair.

(RECITATION FROM THE HOLY QUR'AN)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ  
بَيْنَكُمْ وَكَأَنَّ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ  
بِنَاتِهِ ثُمَّ يَسِيلُ فِي فَتْرَانِهِ مُمْصِرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ  
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا  
صَدَاحُ الْعُرُودِ -

ترجمہ: جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشیا اور زینت و آرائش اور تمہارے  
آپس میں فخر و تالش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔  
اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کانوں کو کھیتی بھی لگتی ہے  
پھر وہ خوب زور پر آجاتی ہے پھر اسے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے پک کر زرد  
پڑ جاتی ہے پھر چپرا چپرا ہو جاتی ہے اور آخرت میں کافروں کے لئے عذاب شدید

اور مومنوں کے لئے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی تو مٹا دیتا ہے۔

(سورۃ المدید آیت ۲۰)

### QUESTIONS AND ANSWERS

جناب ڈپٹی چیئرمین : بسم اللہ الرحمن الرحیم ، سوالات ، پروفیسر خورشید احمد صاحب

سوال نمبر ۱۰۰-

### B. TECH. (HONS.) DEGREE

107. \*Prof. Khurshid Ahmed: Will the Minister for Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that B. Tech. (Hons.) degree awarded by the polytechnic Institutes is equivalent to B.Sc. (Engg.);

(b) whether it is also a fact that the University of Engineering and Technology, Lahore had declared B. Tech. (Hons) degree equivalent to B.Sc. (Engg.) for employment as field engineers only; and if so; and

(c) the reason for the discrepancy between the policy adopted by the University of Engineering and Technology, Lahore and the decision of the Government made in 1973 equating B. Tech. (Hons.) to B.Sc. (Engg.) degree for all purposes?

Syed Amir Haider Kazmi: (a) The Pakistan Engineering Council has decided that "B. Tech. (Hons.) degree in its present form is not equivalent to B.Sc. (Engg.) degree". (Annexure-I).

(b) A Notification was issued to this effect by the Education Department, Government of Punjab on the basis of the approval of the Academic Council of the University of Engineering and Technology, Lahore. It was, however, withdrawn consequent upon the decision taken by the Pakistan Engineering Council. (Annexure-II).

(c) B. Tech. (Hons.) programmes was initiated by the Provincial Education Departments in selected Polytechnics which were upgraded to the status of Colleges of Technology to provide avenues of specialised training to Polytechnic diploma holders. On consideration of matters relating to academic equivalence of B. Tech. (Hons.) degree to B.Sc. (Engg.) degree, Pakistan Engineering Council took the decision that B. Tech. (Hons.) degree in its present form

is not equivalent to B.Sc. (Engg.) degree, since the curriculum, minimum qualification for admission have not been of the same level in case of B. Tech. (Hons.) degree as for B.Sc. (Engg.) degree. Some Engineering and Technology Universities have now reserved a limited number of seats in 3rd Year Engineering for admission of B. Tech. (Hons.) degree holders who wish to obtain B.Sc. (Engg.) or B. Engg. degree.

Annexure I

### PAKISTAN ENGINEERING COUNCIL

(Constituted by Govt. of Pakistan under Pakistan Engineering Council Act 1975)

Chairman

Engr. Shah Nawaz Khan

52 Margala Road, F-6/3,

P.O. Box 1296, ISLAMABAD

Tel: 24704-29348

No. PEC/4-P/QEC

Date 1st March, 1983

Subject:— Equivalence of B. Tech. (Hons.) Degree with B.Sc. (Engg.) Degree

Sir,

It may please be recalled that the issue of equivalence of B. Tech. (Hons.) degree with B.Sc. (Engg.) degree has been under consideration of Pakistan Engineering Council with a view of maintaining the standard of engineering education in the country. This matter has again been discussed in detail in the Executive Committee meeting of the Pakistan Engineering Council held on 26th and 27th of February, 1983, in Islamabad in which Federal Ministry of Education was also represented. The decisions taken on the subject are as under:

1. B. Tech. (Hons.) degree in the present stage is not equivalent to B.Sc. Engg. degree.

2. A Committee to be constituted by the Pakistan Engineering Council will determine the deficiencies in the course content of B. Tech. (Hons.) degree as compared to B.Sc. (Engg.) degree of particular specialization.
3. Universities of Engineering and Technology be requested through the Federal Ministry of Education to recommend measures and additional period of instruction so that B. Tech. (Hons.) degree be equivalent to B.Sc. (Engg.) degree.
4. Universities of Engineering and Technology be requested through Federal Ministry of Education to revise existing curricula and duration of the instructional period of B. Tech. (Hons.) degree of a particular specialization such that it is equivalent to the respective B.Sc. (Engg.) degree.

2. The decisions above mentioned have been taken to provide opportunities to polytechnic diploma holders for improvement of their qualifications and upward mobility maintaining a uniform standard of professional education in the country.

With regards,

Yours Obediently,  
 SHAH NAWAZ KHAN,  
*Chairman.*

Mr. Muhammad Ali Khan,  
 Minister for Education,  
 Government of Pakistan,  
 Ministry of Education,  
 ISLAMABAD.

Annexure II

EDUCATION DEPARTMENT

*The 1st February, 1981*

“No. SO (E.E.) 1-12/77 (P-II).—Consequent upon the approval of the Academic Council of the University of Engineering and

Technology Lahore as conveyed under their letter No. ACAD/IV (14) 3688, dated 15th October, 1980, the Governor of the Punjab is pleased to declare B. Tech. (Honours) degree in particular specialization equivalent to corresponding B.Sc. (Engineering) degree of that University for job purposes as field Engineers”.

SAFDAR HUSSAIN KAZMI,  
Education Secretary.

GOVERNMENT OF THE PUNJAB  
EDUCATION DEPARTMENT  
NOTIFICATION

“No. SOFA/1-12/77(P-11).—Consequent upon the decision taken by the Pakistan Engineering Council dated 30-8-1984, this Department Notification No. SO(EE) 1-12/77(P-11), dated 8-2-1981 is hereby withdrawn.”

Dated Lahore,  
the 15th March, 1985

FAROOQ HAROON,  
Acting Secretary Education

پرنسپل فیروز شہید احمد! مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ آپ کے دور کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ  
حقیقت یہ ہے کہ بی ایس سی انجینئرنگ اور بی ٹیک کی ڈگریوں کے بارے میں جو confusion  
رہا ہے اس کا حل جو آپ نے نکالا ہے اس سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اور  
میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس مسئلے پر از سر نو غور کرنا چاہیے۔ کم از کم وہ افراد جنہیں ۱۹۸۳ء  
اور ۱۹۸۵ء کے درمیان ملازمت دی جا چکی تھی۔ وہ بہت ہی affected ہیں اور حل اس کا وہی  
ہے جو آخری حصے میں آپ نے کہا ہے کہ ایکٹ اور سمنر کے اگر کوئی discrepancy ہے وہ پوری  
کر لی جائے میں چاہوں گا کہ حکومت اس مسئلے کے اوپر غور کرے۔ اور ان لوگوں کے مسائل کا کوئی نہ  
کوئی حل نکالنے جو اس deficiency کی بنا پر suggest کر رہے ہیں۔  
سید امیر حیدر کاظمی: میں معزز رکن کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت اس سارے مسئلے پر غور کر رہی ہے  
اور میں بھگتا ہوں کہ اس سلسلے میں بہت جلد مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔

Lt. General (Retd) Saeed Qadir: Supplementary, Sir. The

position mentioned in annexure I to the reply indicates that certain actions were required to be initiated by the Engineering Council after its meeting which was held on 26th and 27th February, 1983. Those actions which were required to be initiated were to indicate the deficiencies which were required to be completed. I am also aware

that some meetings did take place with regard to making up of these deficiencies. Would the honourable Minister be able to state now the exact position with regard to the university's attitude and the Engineering Council's attitude towards organizing these classes to make up those deficiencies.

سید امیر حیدر کاظمی: اس کا مکمل جواب میرے پاس نہیں ہے اس کا انفریشن نوٹس دیا جائے تو میں اس کا مکمل جواب دے سکتا ہوں۔  
جناب ڈپٹی چیئر مین: انفریشن نوٹس کے لئے کہہ رہے ہیں۔

Lt. Gen. (Retd) Saeed Qadir: Why should a fresh notice be required. It is a part of this question and I will be prepared to defer the question for the next rota day.

پروفیسر خورشید احمد: مجھے جناب سید قادر صاحب سے اتفاق ہے اور تمہارا جواب آپ نے دیا ہے۔

سید امیر حیدر کاظمی: میں نے جیسا کہہا ہے کہ اس کا میرے پاس مکمل جواب نہیں ہے اور اس کے مکمل جواب کی ضرورت ہے۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ مکمل جواب نہیں ہے تو اس کو ایکسٹ روٹا ڈے پر رکھ لیتے ہیں۔

جناب عبدالحمید قاضی: میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بی ٹیک کے لئے میٹرک کے بعد کتنے سال لگتے ہیں۔ اور بی ٹیک میں کتنے سال لگتے ہیں۔ بی ایس سی انجینئرنگ کرنے کے لئے میٹرک پاس کرنے کے بعد کتنے سال لگتے ہیں اور ٹیکنیک حاصل کرنے کے لئے کتنے سال ٹریننگ لینا پڑتی ہے۔

سید امیر حیدر کاظمی: جناب والا! جو سوال پوچھا گیا ہے۔ میرے خیال میں اس ضمنی سوال کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: ویسے قاضی صاحب آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میٹرک کے بعد بی ٹیک کے لئے چار سال لگتے ہیں اور انجینئرنگ میں میٹرک کے بعد چھ سال لگتے ہیں دو

سال ایف ایس سی کرنے میں اور چار سال انجینئرنگ کرنے میں ۔  
 جناب عبدالحمید قاضی : زیادہ سال لگ جاتے ہیں ۔ اس لئے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ  
 ان کا training period کتنا ہونا ہے اور دوسروں کا کتنا ہے ۔  
 جناب ڈپٹی چیئر مین : قاضی صاحب اگر فرلش سوال کر لیں تو یہ زیادہ تفصیل دے سکیں  
 گے ۔ شکریہ اگلا سوال نمبر ۱۰۸ جناب محمد محسن صدیقی ۔

### JOB OPPORTUNITIES FOR YOUTH

108. \*Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui: Will the Minister for Labour, Manpower and Overseas Pakistanis be pleased to state the plan if any, under consideration of the Government to create job opportunities home and abroad for educated youth of the country and to improve the professional skill of labour force?

Malik Mukhtar Ahmed Awan: The following steps are being taken by the Government to create job opportunities home and abroad for educated youth of the country and to improve the professional skills of the labour force—

- 6.1 million additional jobs are planned to be created during the Seventh Plan period.
- The Government is launching a Rs. 2 billion "People's Development Programme" to promote employment in the country.
- Soft-term loans are being advanced by the Small Business Finance Corporation to the young un-employed doctors, engineers and lawyers etc. who intend to set up their own business.
- Youth Investment Promotion Society has set up its offices in principal cities of Pakistan, which advance loans to educated youth to promote self-employment among them.
- University Grants Commission has introduced a scheme to provide financial assistance to highly educated un-employed youth.

- The National Training Bureau of Manpower Overseas Pakistanis Division is implementing a National Vocational Project. The project has developed the existing training capacity of Technical Training Centres, Government Vocational.
- Training Institutes and Apprenticeship Training Centres of the Provincial Governments by providing equipment and material and enabling these training centres to develop capacity for training 12584 trainees annually in different trades. The Project further plans to develop the enrolment capacity of training centres by 16884 per annum under Phase-II. The main purpose of the Project is to enhance the employability of the un-employed youth by imparting them skill training.
- For employment abroad, new Overseas Employment Promoters (recruiting agencies) are being inducted through issue of fresh licences. Community Welfare Attaches posted mostly in labour importing Middle Eastern countries, are under direction to maintain close contacts with employers in respective countries to obtain demand for Pakistani workers. Teams of Overseas Employment Corporation visit the labour importing countries from time to time to obtain manpower demands. Overseas Employment Promoters also maintain close contacts with the employing agencies in the labour importing countries.

Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui: Mr. Chairman, my question was not to narrate what steps the previous Governments had taken to solve the unemployment problem or what they provided in the 7th Five Year Plan. My question was about the present Government which has come in power by a democratic process with a lot of drum-beatings that they will create opportunities for unemployed people whose number is being raised to an alarming stage, I would like to know from the honourable Minister as to what programmes they have according to their manifesto for increasing the job opportunities?

ملک مختار احمد اعوان: جناب چیئرمین! جو جواب دیا گیا ہے اس میں کافی وضاحت ہے لیکن میں آئین ممبر کی خدمت میں آپ کی وساطت سے عرض کروں گا کہ موجودہ حکومت نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہے کہ expansion of industry کی طرف توجہ دی ہے اور ایک آزادانہ پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ ہم سماں سکینل انڈسٹری کا اینٹ ورک اس ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں خاص کر رورل ایریا میں جس سے job opportunities اور میسر آئیں گی اسی طرح پیپلز ڈویلپمنٹ پروگرام پر ہماری آئینل وزیر اعظم بے نظیر بھتو صاحبہ نے ۲ بلین روپے allocate کئے ہیں جس سے large scale پر لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے اسی طرح soft term loans ہیں اور self employment کے لئے ٹریننگ سنٹر ہیں۔

Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui: Point of order, Sir.

Mr. Deputy Chairman: Mr. Mohsin Siddiqui on a point of order.

Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui: These are already enumerated in the reply and they are only a continuation of the steps that were taken by the previous Government. My question is very very specific and I hope, the honourable Minister will understand it that they have a manifesto and in that manifesto they have spelled out that they would provide jobs for unemployed the number of which is increasingly alarming. What steps they have taken or what steps they propose to take to solve this gigantic problem which is facing this country?

جناب ڈپٹی چیئرمین: اعوان صاحب محسن صدیقی صاحب اگر کوئی بات ہوئی ہو۔ تو اس کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی specific لئے ہوں

ملک مختار احمد اعوان: میں نے عرض کیا ہے کہ نیشنل ٹریننگ بیورو پر ہم نے کرتے ہی توجہ دیا ہے اور ہم اس کے لئے ۳۱ نئے سنٹر قائم کر رہے ہیں۔

اور ۵ سنٹر خواتین کے لئے قائم کر رہے ہیں۔ جہاں ان پر Training Bureau میں جو دوکیشن ٹریننگ سنٹر بنائے جائیں گے۔ ان پر ایک کثیر رقم خرچ آ رہی ہے۔

اور ہم کو شغف کریں گے کہ self employment بروموٹ کرنے کے لئے  
توجہ دی جائے۔ اور خاص کر دیہاتوں میں ہم اس بروموٹ کر کے job opportunities  
create کریں۔

Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui: Would the honourable Minister inform us as to what steps for setting up industries in the urban areas have been taken because a large number of unemployment is in the urban areas and not in the rural areas as much? Of course, there is in the rural areas and we are fully conscious of it but the most unemployed people are in the urban areas, what steps have been taken for that by this Government?

ملک مختار اعمان: جناب میں نے عرض کیا ہے ہم industrialization کے لئے  
ایک آزاد پالیسی کا اعلان کر چکے ہیں یہ دونوں نیٹو اربن ایریا اور رورل ایریا کو  
cover کرتی ہے رورل ایریا کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ ہم سماں سکیمل انڈسٹری  
کلائنٹ ورک پھیلاتا جا رہے ہیں۔ اربن ایریا میں ہم انڈسٹری کو  
کرنا چاہتے ہیں کہ جو existing یونٹ ہیں ان کو آزاد طور پر ایک ایسی فضا  
بہیا کی جائے کہ وہ سکون کے ساتھ جو expand کر سکیں۔

Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui: Mr. Chairman, as a matter of fact, he says that in the urban areas he is having a network of industries. Has this Government removed the ban on Lahore, Karachi, Hyderabad and other major cities? Because all industries are banned from the time of the previous Government to be set up in these areas and the unemployment is in these areas. What steps they have taken to remove the ban and unless the ban is removed no industry can be set up there?

جناب ڈپٹی چیئرمین: آپ تشریف رکھیں آپ کا یہ سوال ڈائریکٹ منسٹر آف انڈسٹری  
سے متعلق ہے تو منسٹر انڈسٹری سے معلوم کریں گے کہ انہوں نے کیا  
لئے ہیں اس وقت سر دست اعمان صاحب۔۔۔۔۔

(Interruption).....

Mr. Mohsin Siddiqui let me finish first.

اعوان صاحب کے باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی

جو آپ چاہتے ہیں اس قسم کے

practically and specifically

انہوں نے لئے نہیں ہیں ان کا پروگرام

practical and specific

بڑھانے کی

Job opportunities

مختلف پروگرامز کے تحت ہے کہ ہم

کو شہرت کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ محسن صدیقی صاحب اس بات کو مزید بڑھانے

سے کوئی fruitful results سامنے نہیں آئیں گے۔ بات اعوان صاحب بھی وہی کہی

گئے۔ اور آپ بھی وہی کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ اسکو ختم کریں last supplementary

سید عباس شاہ صاحب . . . . .

جناب محمد محسن صدیقی: میرا ایک ضمنی سوال باقی ہے۔

جناب ڈپٹی چیرمین: پلیمنٹری تو پانچ چھ ہو گئے ہیں۔

جناب محمد محسن صدیقی: میرے تو دو ہوئے ہیں۔

With all respect and due reference I disagree that the Ministries of Industries, Man and Power are two separate Ministries. There is a collective responsibility. This Government is a democratic Government.

Mr. Deputy Chairman: Mr. Mohsin Siddiqui, you kindly put your supplementary.

Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui: I am putting the record straight for the simple reason. Now, the question is for these unemployed highly educated people, have the Government any scheme to give them some subsistence allowance till they get any job?

Mr. Deputy Chairman: It does not arise out of this question Mr. Mohsin Siddiqui, I think so.

ملک مختار احمد اعوان: جناب والا! ناضل رکن کی خدمت میں آپ کی وساطت سے عرض کروں گا کہ soft term loans کا ایک جامع پروگرام ہمارے پاس موجود ہے جس کے تحت ہم ڈاکٹرز و کلاء اور انجینئرز کو یہ loan فراہم کرتے ہیں۔ میں عرض کروں۔ ۴۳۰۸ ڈاکٹرز کو قرض دیا جا چکا ہے و کلاء میں سے ۴۴۵ و کلاء کو قرض دیئے جا چکے ہیں انجینئرز میں سے ۴۷۷ کو یہ قرض دیئے جا چکے ہیں اسی طرح یونیورسٹی فیکلٹیز میں بھی یہ شعبہ جات قائم ہیں۔۔۔۔۔

میر حسین بخش بنگلزئی: پوائنٹ آف آرڈر، میری اس سلسلے میں صرف ایک clarification سے یہ تقریباً چار ہزار ڈاکٹروں کو کب دیئے جا چکے ہیں۔ سبالتہ گورنمنٹ میں یا ابھی اس حکومت کے دوران۔

ملک مختار احمد اعوان: جی میں عرض کرتا ہوں کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے تحت اعلیٰ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان میں پی ایچ ڈی، ایم فل، اور فرسٹ ڈویژن ایم ایس سی جہنوں نے رکی ہے، ان کو وظائف دیئے جا رہے مثلاً دو ہزار روپیہ ایک کو دیا جا رہا ہے اور پندرہ سو روپے unemployed M.fills کو دیئے جا رہے ہیں۔ ہمیں طرح ایک ہزار روپیہ فرسٹ ڈویژن ایم ایس سی کو دیا جا رہا ہے۔

Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui: Sir, these are the measures that the previous Government took. I am asking the question specifically to this Government because by now it has come in power for the last 2½ months; have they taken any step in this behalf or they propose to take a step?

جناب ڈپٹی چیئرمین: محسن صدیقی صاحب اعوان صاحب نے تو کہا ہے کہ

they have got so many proposals.

ابھی عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں کئے گئے۔

Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui: The House should be informed. It is in their benefit, it is in their favour and my supplementary have given them a chance to demonstrate before the people through this House that they have immediately taken up this colossal problem of national unemployment. It is in their interest, they should come out.

جناب ڈپٹی چیئرمین؛ محسن صدیقی صاحب اس un-employment کو  
اور ذریعہ سے ہم discuss تو کر سکتے ہیں۔ لیکن بذریعہ سوال آپ صرف  
specific انفارمیشن مانگ سکتے ہیں۔ جہان کے پاس بھتیں وہ انہوں نے آپ کو  
بتادی ہیں۔ اس لئے اگر مزید انفارمیشن چاہتے تو قاعدہ ۱۹۴ کے تحت ایک تحریک پیش کر دیں۔ اس کے  
تحت پھر سارے پالیسی میٹرز کو ڈسکس کر لیں گے۔ یہ عجب اس صاحب آخری ضمنی سوال۔

Syed Abbas Shah: Through you Sir, I ask the Minister the total number of unemployed people in Pakistan at present and what will be the total number after five years of unemployed people and what is their programme? That is the simple question.

Mr. Deputy Chairman: Awan Sahib, have you got the information?

ملک فقار احمد اعوان: جناب چیئرمین! اس وقت ہم ملین، un-employed  
لوگ اس ملک میں موجود ہیں یہ ساتویں بیس سالہ پلان کی continuity ہے۔

Mr. Deputy Chairman: No cross talk please.

ملک فقار احمد اعوان: اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ۶۰۱ ملین لوگوں کو اس پلان کے  
تحت ملازمتیں دیا جائے۔

Syed Abbas Shah: Sir, I don't agree with this unemployment rate because, we know it is 21 million in the country.

Mr. Deputy Chairman: Professor Sahib, you wanted to say something.

Prof. Khurshid Ahmed: The honourable Minister has given incorrect figure about the unemployment. He should give correct figure.

Mr. Deputy Chairman: Then next time, you get your figure corrected and then reply to them.

اچھا جی انکا سوال ڈاکٹر نور جہاں صاحبہ۔  
 ڈاکٹر نور جہاں پانیزف: پلیمنٹری سوال، میں وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں  
 کہ انہوں نے ابھی جو scholarships کا figure بتایا ہے کیا اس  
 کے متعلق صوبہ دار بتا سکتے ہیں کہ کیا ratio ہے۔  
 ملک ممتاز احمد اعوان: اس کے لئے علیحدہ سوال چاہیے تاکہ میں تمام صوبوں کے  
 figures منگوا کر ان کو بتا سکوں۔

Mr. Deputy Chairman: You are right.

Dr. Bisharat Elahi: One more question Sir.

Mr. Deputy Chairman: Dr. Sahib, I think more than eight supplementary questions have already been asked.

Dr. Bisharat Elahi: Sir, I have been waiting for so long. It may be very short, very brief, to the point.

Mr. Deputy Chairman: O.K.

Dr. Bisharat Elahi: Will the Minister concerned be pleased to state the break-up of the Peoples Development Programme and the number of people that will be employed in the different sectors of this Programme?

Mr. Deputy Chairman: Again he will be asking for a fresh notice.

Dr. Bisharat Elahi: No, he has mentioned here, the Government is launching a two-billion Peoples Development Programme to promote employment in the country. So, my question is very relevant.

Mr. Deputy Chairman: That is right.

ملک مختار احمد اعوان: پروگرام کا میں نے mention کیا ہے۔ میں فنڈز کی جو allocation ہے اس کے متعلق عرض کیا ہے کہ وہ دو بلین ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر دینا کہ اسکے لئے ایک علیحدہ ڈویژن ہے اس لئے ایک علیحدہ سوال اس ڈویژن سے کیا جاسکتا ہے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: شکریہ، فریش نوٹس، اگلا سوال نمبر ۱۰۹ جناب محسن صدیقی صاحب۔

WAGE BOARD FOR JOURNALISTS

109. \*Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui: Will the Minister for Labour; Manpower and Overseas Pakistanis be pleased to state when the new wage board would be constituted to increase the wages of the newspaper's employees?

Malik Mukhtar Ahmed Awan: The last Wage Board for Newspaper Employees gave its award effective from 15-4-1985.

No such proposal is presently under consideration.

Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui: Is the honourable Minister aware that Mohtarma Benazir Bhutto, the Prime Minister of Pakistan held a reception in honour of the Federal Union of Journalists and assured them to solve their financial problem on priority basis? Is it not enough ground for the present Government to constitute a fresh wage board as the old wage board was constituted 4 years back and try to give such increment to these working journalists as possible? More particularly in the circumstances that the advertisement wage of all the newspapers have been doubled and trippled even the Government has increased that and the benefit must go to the working journalists.

ملک مختار احمد اعوان! جناب چیئرمین! ہماری محترمہ وزیر اعظم صاحبہ کو جو وفد ملا تھا۔ اس میں انہوں نے تین ڈیمانڈ پیش کی تھیں۔

Firstly, it was setting up of the 5th Wage Board for newspapers employees. Secondly, appointment of a whole term Judge in the implementation tribunal for newspapers employees. Thirdly, immediate grant of interim relief by the 5th Wage Board.

یہ اس سسے میں عرض کروں کہ یہ entirely وزارت اطلاعات کا کام ہے اور میری وزارت اس میں اس حد تک جا سکتی ہے، کہ ہم وزارت اطلاعات سے مل بیٹھ کر اس کا جواب حاصل کر لیں اور پھر اس کا علیحدہ سوال میں جواب دیا جائے۔

Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui: Mr. Chairman, it may be a joint responsibility of the Minister for Manpower and the Minister for information, I want an answer. It does not bother me as to who has to answer. My question is to this Government — whoever is the member of this Government duly authorized, whether he is a person who has knowledge, if he has not, he can have consultation with his colleagues but this information we must have because this concerns a free press.

Mr. Deputy Chairman: But I think, Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui under the rules we have to address a specific question to a specific Division or Ministry. If this question pertains to the Ministry of Information then it has to be addressed to that Minister.

Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui: Mr. Chairman, with due respect to your observations, a Member is not supposed to have a very intricate knowledge as to how things in the Ministry happen. Therefore, in many cases when the question is not relevant to that Ministry, even the Chairman collects it or that Ministry, transfers that question to the other Ministry but saying that we are not able to answer and therefore, fresh notice required, it is not fair.

Mr. Deputy Chairman: No, no, he has not said that he is not able to answer but he said that it relates to the Information Ministry and I think he is right. We can get this information as the Information Minister is here. We will hear the views of Information Minister, Mr. Javed Jabbar.

Lt. Gen. (Retd.) Saeed Qadir: Point of order. Mr. Chairman, if it was not pertaining to the Ministry concerned then it should not have been answered. The question has been answered.

Mr. Deputy Chairman: The question came out of the supplementary was addressed to the Information Ministry. The original question was addressed to the Ministry of Labour.

Lt. Gen. (Retd.) Saeed Qadir: Originally also it was wrong. It should never have gone to that Ministry. The question should have gone to the Ministry of Information and it has unfortunately been replied by the Minister who is not concerned with it and the reply is also wrong because the Prime Minister herself and the Minister for Information have already announced that they are thinking of constituting a board and here he says that this matter is not at all under consideration. I think, Ministry of Information can answer in due course of time.

سید فصیح اقبال؛ پوائنٹ آف آرڈر، میں ناؤس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیج بورڈ  
کی ذمہ داری وزارت محنت و لیبر کی ہے یہ انفارمیشن کی وزارت کی ذمہ داری نہیں ہے۔

Mr. Javed Jabbar: May I point out that while the subject of the Wage Board comes under the Ministry of Labour, it is only constituted after the consultation of the Ministry of Information and Broadcasting. We have initiated a process of consultation with all the relevant organizations in the newspapers sector and these discussions are in progress. So, an appropriate decision will be announced shortly.

Mr. Deputy Chairman: Muhammad Mohsin Siddiqui; last supplementary.

Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui: This is not also a satisfactory reply I regret to say because when my question was addressed to the concerned Ministry, as Mr. Javed Jabbar has also agreed to, the Minister concerned in his statement is saying that there is no proposal under consideration. He should have taken into confidence the Minister for Information and should have come with a specific answer. Now, if they want further time I will be willing that this may be taken on the next rota day.

Mr. Deputy Chairman: Right.

Mr. Acting Chairman: Right.

ملک مختار احمد اعوان؛ جناب چیئرمین؛ اس سوال کے دو حصے ہیں۔ میں اتفاق کرتا ہوں  
کہ ڈیج بورڈ کا تعلق میری وزارت سے ہے لیکن Implementation اور اجاری ملازمین

کے لئے ٹریبونل کا تعلق وزارت اطلاعات کے ساتھ ہے۔ ہم نے وزارت اطلاعات کو پہلے ہی ایک خط لکھا ہے کہ ہم اس پر دستک کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس کا جواب آجائے گا۔ تو یہ اس کے لئے علیحدہ سوال دین پھر میں جواب دے سکوں گا۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیج بورڈ آپ تشکیل دیں گے۔

لیکن کچھ عرصے کے بعد۔

Malik Mukhtar Ahmed Awan: But after consultation with the Ministry of Information.

(Interruption)

آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیج بورڈ ہم تشکیل دیں گے۔ لیکن اتنا اطلاعات کو Implementation کرنے کے بعد۔

(Interruption)

Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui: My point of order, Sir.

The Minister has replied that there is no proposal under consideration. That means that this information, conveyed to this House, is a wrong information and he now admits it. He should tender an apology to the House for giving a wrong information.

Mr. Javed Jabbar: Mr. Chairman, may I assure the honourable House and the Members that there is absolutely no intent to be dishonest with the House. There can be no question. It is, in fact, a matter of public record that a reference to the issue of the Wage Board has been made but technically speaking what constitutes that a proposal as such, is not under consideration. Because at the moment we are still going through a process of both formal and informal consultations. A wage board has been constituted approximately

once every five years. The first wage board lasted for about 7 or 8 years. Their is, at the moment, specifically literally speaking, no obligation for the consitution of a new wage board. But, because the date is coming up in the near future, informal consultations have been initiated and an appropriate decision will be announced shortly.

جناب ڈپٹی چیئرمین: جی ڈاکٹر نور جہان صاحبہ۔

ڈاکٹر نور جہان پانیزئی: جناب میں وزیر متعلقہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وزیر اعظم صاحبہ کا ایک بیان اخبار میں تھا کہ وہ اجرت دینے کے لئے فوری طور پر ایک بورڈ تشکیل دے چکی ہیں۔ اور وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ میں تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحبہ صحیح فرما رہی تھیں یا وزیر صاحب صحیح فرما رہے ہیں۔

جناب جاوید جبار: چیئرمین صاحبہ! غالباً معزز رکن نے نہ میرا جواب سنا اور نہ وہ سنا چاہتی ہیں۔ کیونکہ میں نے صاف صاف عرض کیا کہ اس وقت کوئی رسم یا قانونی پابندی نہیں ہے۔ ایک نئے ویج بورڈ کو تشکیل دینے کے لئے وزیر اعظم صاحبہ نے فرمایا تھا کہ جو بھی جائز مطالبات ہیں۔ نیوز پیپر انڈسٹری کے درکار کے، جرنلسٹس کے، ان سب پر بہت غور سے توجہ دیا جائے اور وہ توجہ دی جا رہی ہے۔ اور بہت جلد ایک مناسب اعلان کر دیا جائے گا۔

پروفیسر خورشید احمد: ضمنی سوال کیا متعلقہ وزیر یہ بتا سکیں گے کہ responsibility کتنے سال کے بعد پیدا ہوتی ہے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: پانچ سال کے بعد انہوں نے کہہ دیا ہے۔  
پروفیسر خورشید احمد: ہے کوئی ایسا قاعدہ قانون۔

جناب جاوید جبار: میں بتاتا ہوں۔ آپ ویج بورڈ کی سہٹری اٹھا کر دیکھ لیں پہلا

ویج بورڈ۔

if my memory serves me correctly the first wage board was constituted in 1962. It then took them 7 or 8 years to constitute the next wage board.

بلکہ شاید یہ بات دلچسپ لگے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ

Newspapers Employees Conditions of Service Act میں

کو promulgate کیا۔ یہ گورنمنٹ اس ذمہ داری کا بہت زیادہ احساس رکھتی ہے اور آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ بہت جلد اسکے بارے میں ایک اعلان کر دیا جائے گا۔

پیرزینس غورخیشد احمد: میرا سوال یہ نہیں تھا کہ کس نے کیا کیا۔ جناب وزیر نے فرمایا کہ کوئی legal obligation نہیں ہے میرا سوال یہ تھا کہ کیا قانون میں کوئی obligation provide کا لگی ہے کہ اتنے سال کے بعد ویک بورڈ بنے گا؟

ملک مختار احمد اعوان: جناب چیئرمین اس ملک میں ایک tradition

رہی ہے کہ ویک بورڈ پانچ سال کے لئے یہاں بنتا رہا۔ لیکن قانونی تقاضوں کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ کسی وقت بھی ویک بورڈ constitute کر سکتی ہے اس لئے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کہیں بھی hard and fast رولز نہیں۔

البتہ traditionally پانچ سال تک رہا ہے لیکن اب جو پانچ سال ہیں وہ ۱۹۹۰ء میں ختم ہو رہے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کسی وقت بھی ویک بورڈ constitute کر سکتی ہے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: شکریہ۔ جی ڈاکٹر نور جہان صاحبہ۔

ڈاکٹر نور جہاں پانینری: میں نے جواب بڑے عذر سے سنا ہے اور مجھے سمجھ بھی آگئی ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ زیر غور نہیں ہے۔ یہ clarification میں چاہتی ہوں۔

جناب محمد حسن صدیقی: پوائنٹ آف آرڈر۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: محسن صدیقی صاحب میرے خیال میں پوائنٹ آف آرڈر بہت ہو گئے۔ آپ نے اپنی آخری بات منوالی۔

جناب محمد محسن صدیقی: میں آخری بات عرض کروں گا۔ جناب میں بڑا مداح ہوں جناب۔ جاوید جبار صاحب کا اور ان کے زور خطابت کا لیکن میں ان سے گزارش یہ کروں گا۔ کہ وہ اس زور خطابت میں حقائق کو چھپانے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اس لئے کہ آج وہ ادھر بیٹھے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ وہ یاد رکھیں کہ وہ پارٹی کے ممبر نہیں سینٹ کے ممبر تھے۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: اگلے سوال نبرا طارق چوہدری صاحب۔

PTC & CT LADY TEACHERS IN F.G. SCHOOLS

110. \*Mr. Muhammad Tariq Chaudhary: Will the Minister for Education be pleased to state:

(a) the total number of primary schools run or controlled by the Federal Government in Islamabad, and the total number of PTC and C.T. female teachers posted in these schools; and

(b) the total number of P.T.C. and C.T. female teachers who were given selection grades in 1988 indicating also their names and the date of selection grade given to them separately in each case?

Syed Amir Haider Kazmi: (a) The total number of primary schools run or controlled by the Federal Government under the Federal Directorate of Education in Islamabad/Federal Area are 245 and the number of PTC and CT female teachers posted in these schools are 786 and 864 respectively.

(b) No PTC and CT female teachers have been awarded selection grades during 1988 as record of some teachers was incomplete. However, 37 trained under graduate teachers (TUGT) and 33 matric trained teachers (MITT) have been granted selection grades, as from due date, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, as per list at Annexure I & II.

Annexure ILIST OF MATRIC TRAINED TEACHERS AWARDED  
SELECTION GRADE

S. No.	Name of the Teacher	Date of Award of S.G.
1.	Mrs. Aisha Bibi	1-7-1986
2.	Mrs. Kausar Parveen	Do.
3.	Mrs. Shamim Akhtar	Do.
4.	Mrs. Parveen Akhtar	Do.
5.	Mrs. Shahista Parveen	Do.
6.	Mrs. Shahzad Begum	Do.
7.	Mrs. Mumtaz Parveen	Do.
8.	Mrs. Zubida Begum	Do.
9.	Mrs. Nargis Kokab	Do.
10.	Mrs. Riffat Rehmna	10-8-1986
11.	Mrs. Kausar Parveen	Do.
12.	Mrs. Sajida Jabeen	Do.
13.	Mrs. Motia Jan	Do.
14.	Mrs. Hamida Begum	Do.
15.	Mrs. Farida Hamidullah	Do.
16.	Mrs. Abida Parveen	Do.
17.	Mrs. Riaz Begum	1-9-1987
18.	Nighat Yasmin	Do.
19.	Parveen Akhtar	Do.
20.	Mrs. Zaitoon Bibi	Do.
21.	Mrs. Habiba Parveen	Do.
22.	Mrs. Kausar Parveen	Do.
23.	Mrs. Amir Begum	Do.
24.	Mrs. Nasim Munir Bhatti	Do.
25.	Miss Kausar Dilshad	1-7-1986
26.	Mrs. Jamila Begum	Do.
27.	Mrs. Shamim Akhtar	Do.
28.	Mrs. Mehfooz-un-Nisa	Do.
29.	Mrs. Nasreen Akhtar	Do.
30.	Mrs. Ghulam Sakina	Do.
31.	Mrs. Sunera Begum	Do.
32.	Mrs. Zainab Bibi	Do.
33.	Mrs. Sadat Jabeen	Do.

Annexure II

**LIST OF TRAINED UNDER GRADUATE TEACHERS  
AWARDED SELECTION GRADE, AS FROM 1-9-1987**

---

S. No.    Name of the Teacher

---

1.      Miss Zanib Bibi.
2.      Miss Rashida Begum.
3.      Miss Qamar Sultana.
4.      Mrs. Nasim Hassan.
5.      Mrs. Shahida Safdar.
6.      Miss Malka Khatoon.
7.      Miss. Kausar Parveen.
8.      Mrs. Shahida Parveen.
9.      Mrs. Tahira Jabeen.
10.     Mrs. Rukhsana Tanvir.
11.     Mrs. Kalsoom Barias.
12.     Mrs. Abida Nasreen.
13.     Mrs. Parveen Akhtar.
14.     Mrs. Mehmooda Begum.
15.     Mrs. Saleema Choudahary.
16.     Mrs. Hamida Pervaiz.
17.     Mrs. Ghulam Sughra.
18.     Mrs. Zeenat Afroze.
19.     Mrs. Khalida Aslam.
20.     Mrs. Zahida Ishaque.
21.     Mrs. Farzana Akhtar.
22.     Miss. Syeda Khair-un-Nisa.
23.     Mrs. Riffat Jabeen.
24.     Mrs. Akseera Begum.
25.     Mrs. Salma Bashir
26.     Mrs. Ghulam Zohra.
27.     Mrs. Bushra Parveen.
28.     Mrs. Nighat Parveen.
29.     Miss. Fakhar-un-Nisa.
30.     Mrs. Zahida Nasreen.
31.     Mrs. Fatima Sultana.
32.     Mrs. Nusrat-un-Nisa.
33.     Mrs. Memoona Maqsood.
34.     Mrs. Rashida Shaheen.

35. Mrs. Jamila Bashir Gohari.  
 36. Mrs. Zahida Khanum.  
 37. Mrs. Siddiqa Khatoon.

جناب ڈپٹی چیئرمین! ضمنی سوال؛ طارق چوہدری صاحب پوچھ لیں اگر کوئی ہے تو۔  
 کوئی ضمنی سوال نہیں۔ اگلا سوال عالم علی لاییکا صاحب سوال نمبر ۱۱۱۔

RECRUITMENT OF P.T.C. & C.T. TEACHERS IN ISLAMABAD

111. \*Mian Alam Ali Laleka: Will the Minister for Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an interview was arranged regarding recruitment of P.T.C. and C.T. lady teachers in Federal Directorate of Education, Islamabad on 9th August, 1988;

(b) whether it is also a fact that besides the appointment of some lady teachers a waiting list was also prepared for further recruitment; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to appoint the candidates on waiting list as lady teachers against existing vacancies, if any?

Syed Amir Haider Kazmi: (a) Yes.

(b) Yes, a waiting list of PTC lady teachers only was prepared.

(c) Yes, upon availability of the posts during the current academic year.

میاں عالم علی لاییکا ضمنی سوال؛ جناب چیئرمین صوبائی حکومت کی جانب سے زمانہ  
 اساتذہ نے نیدرل حکومت کے زیر انتظام پرائمری سکولوں میں ملازمت کے لئے درخواستیں  
 دی تھیں اور ان امیدواروں نے انٹرویو بھی پاس کر لیا تھا اور انتظار کی لسٹ بھی درج  
 ہو گئے تھے ان کے بارے میں کیا وزیر موصوف بتانا مناسب سمجھیں گے کہ کیا پالیسی روا  
 رکھیں گے۔

**Syed Amir Haider Kazmi:** 205 candidates of PTC and 84 of CT were selected by the Departmental Selection Committee. Out of which 92 candidates from the selection panel of PTC 58 candidates were issued offer of appointment.

میاں عالم علی لایکا؛ جناب چیئرمین! مجھے پوچھنا یہ ہے کہ صوبائی حکومت کی جانب سے کچھ خواتین اساتذہ سے فیدرل حکومت کے زیر انتظام درخواستیں دی تھیں اور وہ سلیکٹ بھی ہو گئی تھیں۔ اور ڈیننگ لسٹ میں ان کا نام بھی درج ہو گیا تھا۔ ان کے بارے میں کیا پالیسی اختیار فرمائیں گے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: کاظمی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو لوگ ڈیننگ لسٹ پر ہیں ان کے متعلق کیا خیال ہے۔ vacancies کی creation کے بعد ہوگا۔

**Syed Amir Haider Kazmi:** Those people who had applied from the Provincial Government side.

جی اگر اس کے لئے الگ سوال کا نوٹس دیں تو میں جواب دوں گا۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: چلیے لایکا صاحب آپ کو اس کے لئے ایک اور موقع ملے گا فریش نوٹس۔

جناب اعجاز علی خان جتوئی: جناب والا! پوائنٹ آف آرڈر، جناب وزیر موصوف فریش نوٹس پر بڑا اصرار کر رہے ہیں۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: یہ پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہے۔

سید امیر حید کاظمی: میں اس لئے اصرار کر رہا ہوں۔ کہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ صوبائی حکمرانوں سے جن لوگوں نے اپیل کی تھی اس کے متعلق ہے۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: ٹھیک ہے اگلا سوال نمبر ۱۱۲، شاد محمد خان صاحب۔

## CHAIRMAN, FBISE, ISLAMABAD

112. \*Mr. Shad Mohammad Khan: Will the Minister for Education be pleased to state .

(a) the tenure for the post of the Chairman, Federal Board of Intermediate and Secondary Education, Islamabad indicating also the date from which the present incumbant is working on that post; and

(b) whether it is a fact that his case for further employment as Chairman Federal Board of Intermediate and Secondary Education is under consideration of the Government; if not; when he is likely to vacate the office and relinquish his charge?

Syed Amir Haider Kazmi: (a) (i) The tenure for the post of the Chairman, Federal Board of Intermediate and Secondary Education, Islambad is three years extendable by a further period of three years.

(ii) Mr. B.A. Sheikh worked as Chairman on regular basis during the following periods:—

(a) From 4-12-80 to 10-5-82.

(b) From 21-1-85 to 17-1-89.

(b) His case for re-employment was processed but the competent authority did not agree. He has relinquished the charge of the post of Chairman, FBISE on the forenoon of 18-1-1989.

جناب ڈپٹی چیئرمین! انکا سوال نمبر ۱۱۳ جناب اعجاز علی خان جتوئی۔

INSTALLATION OF P.C.O.

113. \*Mr. Aijaz Ali Khan Jatoti: Will the Minister for Communications be pleased to state whether it is a fact that the P.C.O. installed at Village "Bhauoti" of Hala Taluka in the Hospital is being closed, if so, reasons therefor?

Makhdoom Muhammad Amin Faheem: Yes, because an un-authorized extension of Extra Departmental Public Call Office was given to a private party in connivance with the agent of Extra Departmental Public Call Office, which is not allowed under the rules.

جناب اعجاز علی خان جتوئی! جناب یہاں جواب دیا گیا ہے۔

“Yes, because an un-authorized extension of Extra Departmental Public Call Office was given to a private party in connivance with the agent of Extra Departmental Public Call Office, which is not allowed under the rules”.

اب جناب بات یہ ہے کہ یہ پی سی او ایک گاؤں کے لئے منظور ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ عوامی حکومت کے لئے جو کہ وہاں سے mandate لے کر آئی ہے اس کی طرف سے یہ جواب دینا کہ ایک کنکشن دیا گیا تھا کسی پرائیویٹ پارٹی کو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ جواز ڈھونڈیں کہ ایک کنکشن کس نے دیا تھا پی سی او جو تھا وہ ایک گاؤں کے لئے منظور ہوا تھا۔ اور اس پورے ایریا کے

کو دینا because it was given to a private party یہ کوئی اسکا

جواب بنتا نہیں ہے۔

خدمت محمد آئین نہیں : یہ جو پبلک کال آفس ہوتے ہیں وہ پبلک کے استعمال کے لئے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو private فون چاہیے تو وہ privately لے سکتا ہے ہم نے اسکو اس لئے revive کرنے کے لئے رکھا ہے

کہ ہم کسی ایسی جگہ پر کسی ایسے ایجنٹ کو رکھیں کہ پبلک کے استعمال کے لئے یہ فون استعمال ہو اور اس کو ہم عنقریب شروع کرادیں گے۔ اور پبلک کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔  
جناب اعجاز علی خان جتوئی : جناب والا! یہ پہلے ہی ہسپتال میں تھا تو اس سے زیادہ اچھی کوئی جگہ ان کو چاہیے۔

خدمت محمد آئین نہیں : ہسپتال کے پیچھے گھر ہے جہاں سے تار نکال کر لگائی گئی تھی سیٹ مٹا کر رکھا گیا تھا۔ انخواستی کرنے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ اس لئے کٹ گیا ہے تاکہ اس جگہ رکھیں۔ جہاں کوئی بھی گھر سے پوری پچھے نہ ملے وہ اپنا فون لے لیں میں ان کو دیکھا فون دے دوں گا۔

جناب اعجاز علی خان جتوئی: میں مذکور صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ دویشلی فون کا مشن نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح پورے ایریا کو disconnect کیا گیا ہے وہ تار اگر وہاں سے نکال بھی گئی ہے تو وہ تار کاٹ دیں ہسپتال سے پی سی اور نکال کر آپ کسی اور جگہ پر لگائیں گے تو بتائیے کہاں لگائیں گے۔

مذکورہ محمد امین نعیم: یہ ہم عنقریب کھول دیں گے اور صرف پبلک کے استعمال کے لئے ہوگا۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: مطلب یہ ہے کہ اس مشن کا حل بھی ہو کر وہاں یہ پبلک کال آفس کھول دیں گے۔ اس جگہ پر نہیں کسی اور جگہ پر۔

جناب اعجاز علی خان جتوئی: وہاں پبلک کال آفس نہیں ہونا چاہیے۔ اسے ڈسکنٹ نہیں کرنا چاہیے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: اگلا سوال نمبر ۱۱۴۔ جواب نہیں آیا۔ اگلا سوال نمبر ۱۱۵۔ سلیم سیف اللہ خان صاحب۔

#### BRIDGE OVER RIVER KURRAM

115. \*Mr. Saleem Saifullah Khan: Will the Minister for Communications be pleased to state whether there is any plan to build a bridge over the River Kurram at Darra Tang?

Makhdoom Muhammad Amin Faheem: The Highway on which the Kurram Bridge is located is a Provincial road and is the responsibility of the NWFP Government. Therefore, there is no proposal under consideration of the Ministry of Communications to build a bridge over river Kurram at Darra Tang.

Mr. Salim Saifullah Khan: Sir, since the Minister is also the Minister for Railways, I would like to ask a supplementary question, whether it is correct that this bridge was initially built by the Railways and is being used by the Railways and is being maintained by the Railways Division.

Makhdoom Muhammad Amin Faheem: I think, the provincial government and the Department of Railways will co-ordinate and will come up with a solution.

Mr. Deputy Chairman: No, this not the reply.

انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ ریلوے اس کو استعمال کرتی رہی ہے اور اس کو ریلوے maintain کرتی رہی ہے اور ریلوے ڈیپارٹمنٹ ہی اس کو use کرتی ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آیا یہ درست ہے کہ نہیں۔

Makhdoom Muhammad Amin Faheem: I want fresh notice for this, Sir.

جناب ڈپٹی چیئرمین: یہ تو بہت ہی معمولی بات ہے۔

whether this bridge was being used by the Railway Department or the provincial government.

Makhdoom Muhammad Amin Faheem: Railway Department.

جناب ڈپٹی چیئرمین: جی سلیم سیف اللہ خان صاحب، وہ ریلوے ڈیپارٹمنٹ کا ہے اور وہی استعمال کرتے رہے ہیں۔

Mr. Salim Saifullah Khan: Sir, I asked this question because it is really in a very poor state and it is being used by the Railway authorities. I would request the Minister if he could kindly ask the Railway Division to have a look of it and either build a new bridge or at least maintain it properly.

Makhdoom Muhammad Amin Faheem: I will take it up with the Railway Administration.

جناب ڈپٹی چیئرمین: اگلا سوال نمبر ۱۱۴ جناب سلیم اللہ صاحب۔

#### INDUS HIGHWAY PLAN

116. \*Mr. Salim Saifullah Khan: Will the Minister for Communications be pleased to state the stage of implementation of Indus Highway Plan and the expected time by which the work will start on it?

Makhdoom Muhammad Amin Faheem: It is proposed to complete the construction and rehabilitation of the Indus Highway in the Seventh Five Year Plan period. The physical work on the project is expected to start by 1st January, 1990.

Mr. Salim Saifullah Khan: Supplementary, Sir.

What is the total cost of this project?

Mr. Deputy Chairman: Have you got the information. He is asking about the total estimated cost of the project.

Makhdoom Muhammad Amin Fahim: Sir, the existing road along with the west bank of River Indus is proposed to be improved and strengthened alongwith its entire length — 1222 kilometers. This includes two major re-alignments, one from Norriabad to Sehwan — 147 kilometers in the south, and the other from Sarai Gambela to Karapa Chowk — 93 kilometers in the north. The total cost of the project is Rs. 5482 million and the time of completion is proposed to be five years.

Mr. Deputy Chairman: Thank you.

Mr. Salim Saifullah Khan: Sir, I had asked for the cost of the total project but any way the Minister said that it will be completed in five years. Here in the written reply it says that the work will be completed in the 7th Five Year Plan.

Mr. Deputy Chairman: From 1st January, 1990 onwards.

Mr. Salim Saifullah Khan: The 7th Five Year Plan will finish in 1993. So, is it going to be five years from 1st January, 1990 or as the answer says it will be completed in the 7th Five Year Plan.

Makhdoom Muhammad Amin Faheem: It will be completed in the 7th Five Year Plan within five years. It will start from 1990.

Mr. Deputy Chairman: It will not be possible because you are going to start it in 1990. So, it will be completed in the next five years and it will cover a part of 8th Plan also.

Makhdoom Muhammad Amin Faheem: Yes, Sir, it will be completed in next five years and it will cover a part of 8th Plan.

Mr. Salim Saifullah Khan: Last supplementary. The answer says that the physical work is expected to start by 1st of January, 1990. On which section it will start. It is 1222 kilometer long Indus Highway. On which section is the Highway Department going to start the work.

**Makhdoom Amin Faheem:** Actually we are planning to start from both the ends. So we will try to start from Karachi side and the other side also.

**Mr. Deputy Chairman:** From Kohat and Hyderabad side. From both the ends.

**Makhdoom Muhammad Amin Faheem:** Yes, Sir.

جناب اجاز علی خان جتوئی: جناب چیئرمین! محترم وزیر سے میری عرض صرف یہ ہے کہ پیسے یہ پراجیکٹ ۱۹۷۳ میں حکومت نے شروع کیا تھا۔ اور اس میں ایک سروے کیا گیا تھا تو الاؤٹمنٹ مہی ۱۹۷۳ والی ہے یا آپ اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔  
مقدم محمد امین خیسر: یہ ہماری ۱۹۷۳ والی پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوا تھا۔ اور گذشتہ دور میں اس کو کنسل کیا گیا تھا۔۔۔۔۔

تھوڑی بہت جو بھی ضروری

**Mr. Deputy Chairman:** Next question, No. 117 Mr. Salim Saifullah Khan.

MAINTENANCE OF PESHAWAR — D.I. KHAN NATIONAL HIGHWAY

117. \*Mr. Salim Saifullah Khan: Will the Minister for Communications be pleased to state the amount being spent on maintenance of Peshawar, D.I. Khan Section of National Highway?

**Makhdoom Muhammad Amin Faheem:** Funds allocated for maintenance of Peshawar—D.I. Khan Section of National Highway for the year 1988-89 are Rs. 5.379 million.

**Mr. Salim Saifullah Khan:** Supplementary, Sir. When was this Highway nationalized?

جناب ڈپٹی چیئرمین: وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ نیشنل ہائی وے کے حصے میں کب شامل کیا گیا۔ سو ہائی وے حکومت سے کن فیڈرل گورنمنٹ کے نیشنل ہائی وے میں کب یہ پوزیشن شامل کیا گیا۔

Makhdoom Muhammad Amin Faheem: I do not have the date, I will need fresh notice.

Mr. Salim Saifullah Khan: One other supplementary, Sir. It is almost 220 miles and allocating Rs. 5.3 million is quite less. When it was a provincial road, the provincial government used to spend over 15 to 20 million rupees on its maintenance. Now, that it has been nationalized, the Federal Government is only spending 5.3 million rupees on a road which is over two hundred miles long, would the Minister reconsider it for the increase of the amount?

مخدوم محمد امین فہیم: ہم اس کو دیکھیں گے جو ضروری ہوا اس کو مزید فنڈز

allocate کریں گے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: اگلا سوال میان عالم علی لایکا صاحب سوال نمبر ۱۱۹۔

#### INSTALLATION OF A TELEPHONE AT JHANG

119. \*Main Alam Ali Laleka: Will the Minister for Communications be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Assistant Engineer Telephones Jhang Sadar issued a letter No. P-8/112 dated 17th December, 1986 addressed to the Divisional Engineer, Telephones, Sargodha a copy of which was endorsed to Abdul Latif Seth, resident of House No. 694 Muhallah Shaikh Lahori, Jhang Sadar stating that the exchange was overloaded at that time and a new telephone connection will be provided to the applicant after the expansion of the exchange; and

(b) whether it is also a fact that a new telephone exchange has been installed in Jhang, if so, the reasons for not providing the telephone connection to the above applicant so far?

Makhdoom Muhammad Amin Faheem: (a) Yes.

(b) The telephone exchange did expand but in the meanwhile all the sanctions made by the then Minister for Communications were with-drawn rendering the said case as an ordinary one.

Mr. Alam Ali Laleka: Would the honourable Minister be kind to answer whether the sanctions were withdrawn by the previous

Minister or the present Minister? Would he like to consider the applicant's case on compassionate grounds in view of the promise made to him by the Telephone Department?

خدمت امین فہیم: اس سے پہلے ہوئے ہیں۔ ہم اس کو کنیڈر کریں گے۔ جو بھی

ہمگا۔ reasonable

جناب ڈیپٹی چیئرمین: شکریہ اگلا سوال صوبیدار نذر و خیل صاحب۔

DIRECT DIALLING FACILITY IN BALUCHISTAN

120. \*Subedar Khan Mandokhel: Will the Minister for Communications be pleased to state:

(a) the names of District Headquarters of Baluchistan Province connected with direct dialling facility; and

(b) the time by which this facility will be extended to the District Zhob and Loralai?

Makhdoom Muhammad Amin Faheem: (a) The names of district Headquarters of Baluchistan Province connected with NWD Network are as under:—

(1) Quetta.

(2) Sibi.

(3) Kalat.

(4) Uthal.

(5) Khuzdar.

(6) Kharan.

(b) Both Zhob and Loralai are expected to be connected with Nation Wide Dialling by the end of 1989.

Mr. Deputy Chairman: Please include Pishin also which is my District.

Makhdoom Muhammad Amin Faheem: Definitely.

جناب صوبیدار خان مندوخیل : ضمنی سوال : ٹرول کوئسٹر خضدار اور مغل ہسٹونگ کراچی یہ ایک ہی لائن میں ہیں۔ یہ تو ایک ہی ڈویژن میں سب ہو گئے ہیں۔ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹرول پشین، لوالائی اس میں میٹری دو سال سے پڑی ہوئی ہے بلڈنگیں بھی تیار پڑی ہیں۔ آیا وزیر صاحب بتائیں گے کہ یہ میٹری اور بلڈنگیں کب تک بینڈ اوور کریں گے۔ کیونکہ میٹری تیزنگ پڑ رہی ہے۔

Makhdoom Muhammad Amin Faheem: Shortest possible time.

جناب ڈپٹی چیئرمین : جلد سے جلد کریں گے۔ جی کھوسو صاحب۔  
میر سہراب خان کھوسو! ڈیرہ سراد جمالی کو بھی ڈائریکٹ ڈاسٹنگ سے ملانے کا کوئی پروگرام ہے۔

مخدوم محمد امین ظہیم : اس کا الگ سوال پوچھیں میں عرض کروں گا ابھی میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے۔

جناب محمد اسحاق بلوچ : میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گوادریٹلائٹ سٹیشن کا کام کب مکمل ہوگا۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : مخدوم صاحب اس سوال سے تو یہ ضمنی سوال نہیں نکلتا اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہو تو بتادیں۔

مخدوم محمد امین ظہیم : اس کے لئے فریش نوٹس چاہیے ہوگا۔  
جناب ڈپٹی چیئرمین : وہ کہہ رہے ہیں کہ فریش نوٹس دے دیں۔  
جناب محمد اسحاق بلوچ : سہرات پر فریش نوٹس۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : اگلا سوال نمبر ۱۰۲ جناب شاد محمد خان صاحب۔

#### PRIVILEGES OF MEMBERS

@102. \*Mr. Shad Mohammad Khan: Will the Minister for Justice and Parliamentary Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recently the Senate passed a resolution regarding privileges to the ex-members of the Parliament; and

(b) the action taken by the Government so far in this respect and whether the Government intends to grant such facilities?

Khawaja Ahmed Tariq Raheem: (a) Yes.

(b) After passing of the Resolution by the Senate on 12th September, 1988, the Parliamentary Affairs Division has been in touch with the concerned Ministries for extension of VIP facilities to the ex-Members of *Majlis-e-Shoora* (Parliament). The present Government has the highest regard for the Resolutions passed by both the Houses and will give due consideration to their implementation as far as possible.

I understand there is a resolution which was passed and we have passed on the contents of that resolution to the relevant Ministries to which they pertain and there are number of Ministries involved in it. Let me assure the House that we are giving the greatest regard to the resolution passed by this honourable House and necessary steps are being taken to implement that.

Mr. Abdul Majid Kazi: How soon, Sir?

Khawaja Ahmed Tariq Raheem: I said that at the earliest possible because it involves Ministry of Aviation for VIP room, it involves various other Ministries for rest houses. Whatever the facilities are available they will be provided to the Members.

Mr. Abdul Majid Kazi: We are providing these facilities to the retired Secretaries and other bureacurats. So, it was a very simple question.

(Interruption)

ضباب ڈبٹی چیئرمین : آپ کو انہوں نے assurance دی ہے وہ consider کر رہے ہیں وہ دیں گے ضرور لیکن ان کو بھٹو اس وقت درکار ہے تاکہ وہ آئی پی رومز وغیرہ کی توسیع کر دی جائے ایٹورنس دینا تو بڑی

بات ہوگی شکر یہ اس کے ساتھ ہی۔۔۔۔۔  
 جناب اعجاز علی خان جتوئی: یہ مراعات دیں گے یا ناؤں dissolve کر لیں گے۔

Mir Hazar Khan Bijarani: Point of order, Sir. I had asked a very important question and reply to that question was not provided today. So, I would like to know whether the question has been deferred to the next sitting and when the honourable Minister for Communications will be answering that question No. 114.

مخدوم محمد امین نسیم: یہ ہم جیسے کر رہے اور ہم مہیا کریں گے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: کیا اگلے اجلاس میں کریں گے۔

مخدوم محمد امین نسیم: جی ہاں! LEAVE OF ABSENCE

جناب ڈپٹی چیئرمین: جناب عالم علی لایکا صاحب نے ۹ سے ۱۲ فروری تک رخصت کی

درخواست کی ہے کیا ان کی رخصت منظور ہے۔

(رخصت منظور کی گئی ہے)

جناب ڈپٹی چیئرمین: سید اصغر علی شاہ نے ۱۵ سے ۲۵ جنوری تک رخصت کی

درخواست کی ہے کیا ان کی رخصت منظور ہے۔

(رخصت منظور کی گئی ہے)

MOTION UNDER RULE 236 TO SUSPEND THE REQUIREMENTS OF RULE 76

Mr. Muhammad Ali Khan: Mr. Chairman Sir, I move:

“That under Rule 236 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 1988 the requirements of Rule 76 regarding adjournment motions and other business on the agenda be suspended enabling the House to discuss the admitted adjournment motion on the repatriation of stranded Beharis in Bangladesh.”

Mr. Deputy Chairman: It has been moved by Mr. Muhammad Ali Khan.

(Please repeat as at "A" above)

(The motion was adopted)

Mr. Deputy Chairman: Now we can start the discussion on the adjournment motion.

اپ لوگ مہربانی کر کے پھر اپنے نام Secretary صاحب کو پہنچادیں۔

جناب اعجاز علی خان جتوئی: بورڈ کو پہلے وقت دیں گے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: ہاں موورز کو پہلے وقت دیں گے۔

جناب محمد طارق چوہدری: مائٹم طے کر لیں۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: طارق صاحب مائٹم میں تھوڑی فراخدی کرتے ہیں۔ آج اسکواڈ اپ کرتے ہیں۔

خواجہ احمد طارق رحیم: فراخدی کر لیں گے لیکن پھر بھی دس دس پندرہ منٹ وہ کر لیں۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: ہاں وہ کر لیں گے۔ جی اعجاز جتوئی صاحب

ADJOURNMENT MOTION RE: REPATRIATION OF STRANDED  
BEHARIS TO PAKISTAN

جناب اعجاز علی خان جتوئی: شکر یہ جناب چیئرمین! میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ

آپ نے اس اہم مویش پر مجھے موقع دیا کہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں۔

جناب والا۔ سب سے پہلے ۲۵ تاریخ کو جب ہم نے یہ مویش موڈ کی تھی تو گورنمنٹ

کی طرف سے آئرلینڈ وزیر قانون نے یہ ایشنورنس دی تھی۔ ابھی تک اس معاملے میں

اس ضمن میں کوئی decision نہیں لیا گیا ہے اس لئے بھاری جو بنگلہ دیش میں

ہیں وہ یہاں نہیں آئیں گے۔

This was said on the floor of this august House.

آج کے "جنگ" / ہندی میں یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ بنگلہ دیش سے سو بھاری افراد حیدرآباد

سٹیشن پر پہنچے ہیں اور ان کا استقبال کیا گیا ہے۔ میں گورنمنٹ کو ان کی ایشنورنس پر مبارکباد

illegally

capability

دینا چاہتا ہوں۔ اور ان کی اتنی بڑی

کس طرح سے ایک گروہ یہاں پہنچ گیا جبکہ اس ناؤس میں یہ assure کیا گیا تھا

کہ وہ لوگ نہیں آئیں گے جب تک گورنمنٹ فیصلہ نہ کرے گی۔ اس کے بعد جناب  
میں شروع کرتا ہوں ۱۹۴۷ء سے ۔۔۔۔۔

Syed Iftikhar Hussain Gilani: Point of explanation, Sir.

Mr. Deputy Chairman: Law Minister on a point of explanation.

Syed Iftikhar Hussain Gilani: Sir, on a point of explanation. I will repeat what I had said. I never said that the Government had not taken any decision. Record can be checked, what I had said was that they were coming probably four hundred and sixty three but in view of the situation in Sindh we will request the Sindh Government to defer that and I reiterate (a) record can be checked, (b) that merely by reading a newspaper item, I ask the honourable Member, is he really sure that they have come. He belongs to Sindh. He showed me the newspaper item, it is a small item given in newspaper. I, at least, am not sure of the authenticity of this news. If he is confident let him state so before this honourable House. He will verify the facts and make our submissions regarding this by tomorrow about this news item because it has just been brought to our notice but I beg him now that he is making categorical statement, forget the newspaper item, he should categorically state that they have come or they have not come. Thank you Sir.

Mr. Deputy Chairman: Let us listen to each other, everybody will get opportunity to express his views. Let us not interfere others speeches. Mr. Aijaz Ali Jatui.

جناب اعجاز علی خان جتوئی: جناب نیوز پیپر میں یہی رپورٹ تھی بہر حال میں نے  
کنفرم نہیں کیا ہے۔ لیکن نیوز پیپر کی ساری نیوز کے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ساری  
کی ساری جھوٹی ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔

اس کے بعد ۱۹۴۷ء میں جب یہ عظیم ملک ہم سب کی قربانیوں کے بعد بنا تو اس وقت

original plan میں نہیں تھی۔

somehow یہ بہاری تین کا تعلق دراصل بہار سے ہے انہوں نے اپنی مرغی کے مطابق

مشرقی پاکستان کو جنس اور وہ واپس پر settle ہونے۔

جناب والا! جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ان کی total population

اس وقت کے مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش کی کل آبادی کے دو فیصد کے برابر تھی

اور اس کے بعد دو فیصد کی population جہاں تک مجھے علم ہے ۹۸۰ فیصد

بنگالیوں کو کہتی رہی کہ تمہیں میری زبان adopt کرنی پڑے گی تمہیں ہماری ثقافت adopt

کرنی پڑے گی۔ میں آپ کی توجہ ۱۹۴۰ء کے اس ریفرنڈیشن کی طرف دلانا چاہتا ہوں

جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے پاس کیا گیا تھا۔ جس میں جناب قائد اعظم محمد علی جناح

خود تشریف فرما تھے۔ on August 27

on August 27 and also on 17th, 18th September, 1939 and 3rd  
February, 1940. Resolution says:

“Areas in which Muslims are numerically in majority as in the  
north western and the eastern zones should be grouped to  
constitute in which units shall be autonomous, sovereign,  
effective and mandatory safeguards should be specifically  
provided in the Constitution for the protection of their  
religion, cultural, economical, political, administrative, and  
other rights.”

جناب سب سے پہلے تو مجھے بتائیں . . . . .

(مداخلت)

اخونزادہ بہرہ ور سعید: پوائنٹ آف آرڈر۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: ہم اگر اس طرح interrupt کرتے رہیں گے۔ تو کبھی ختم نہیں

ہوگا۔ اور point of order ایک دوسرے کی تعویذ میں ہوتے ہی رہیں گے۔

آپ کو موقع دیں گے۔ اور پھر جو آپ کی مرضی ہو۔ اس کے خلاف بولیں please

جتوئی صاحب

جناب امجاز علی خان جتوئی: میں نے جناب محترم اخونزادہ صاحب کو کبھی disturb

[Mr. Aijaz Ali Khan Jatoi]

نہیں کیا بہر حال وہ disturb کر رہے ہیں اور اپنے پوائنٹ آف آرڈر محمد علی خان نے اپنے  
 جناب اعجاز علی خان جتوئی: وہ ضرور پوائنٹ آف آرڈر اٹھائیں لیکن میں نے اپنے  
 point of order کو ضرور پیش کروں گا۔ کیونکہ as a member  
 یہ میرا حق ہے۔

Mr. Deputy Chairman: No, point of order during the discussion.

اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ ۱۹۴۰ء کے ریفریویشن کے متعلق بتائیں  
 مجھے بتائیں کہ کیا مائیکریشن کسی بھی ریفریویشن تھی قائد اعظم  
 محمد علی جناح کے حوالے سے یا اس وقت کی مسلم لیگ کے ریفریویشن میں کہیں ایسا  
 موجود ہو کر۔

such a large number of migration will take place  
 اس کے علاوہ جو بہاری وٹاں settled ہوئے تھے وہ ایسٹ پاکستان میں اٹھارہ  
 سال تک وٹاں رہے، انہوں نے وٹاں کیا کچھ نہیں کیا۔

open secret اب ہے، انہوں نے وٹاں پر "الشمس" "البدن"  
 تنظیمیں بنائیں "الشمس اور البدن" کی کارروائیاں کسی سے چھپی ہوتی ہیں۔ انہوں  
 نے وٹاں local population کے right of rule کو deny کیا۔ انہوں نے  
 وٹاں local population کو اس حد تک پہنچایا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس  
 باؤس میں کوئی یہ کہے کہ  
 Bangalies were liability on Pakistan

تو یہ مناسب نہیں ہے وہ اتنے ہی patriot تھے جتنے کہ مغربی پاکستان  
 والے تھے ان کو مجبور کیا گیا، ان کی زبان سے انکار کیا گیا، انہی ثقافت سے انکار کیا گیا،  
 انے صوبائی حق حکمرانی سے انکار کیا گیا۔ اس کے باوجود وہ آپ کے ساتھ لگے رہے اور ۱۹۷۱ء میں مجبور ہو کر وہ اپنے  
 الگ ہو گئے۔ یہ ایک fact ہے اس factor کو آپ deny نہیں کر سکتے۔ تاریخ تاریخ رہے گی۔  
 یہ تاریخ کہیں بھی رہے آپ جناب تاریخ کو deny نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ دینا کہ بنگالی ہمارے اوپر  
 liability تھے غلط ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کئی غریب provinces کو بلوچستان کے متعلق  
 بھی کہا جاسکتا ہے کہ غریب province ہے، سندھ بھی غریب province تھا۔ جناب بات  
 یہ ہے کہ اپنی will سے وہ اس صوبے میں آباد ہوئے۔ جو کہ پاکستان کا ایک حصہ تھا۔ اپنی will سے اٹھارہ

سال تک جب تک ایسٹ پاکستان، بنگلہ دیش نہیں بناوہ وٹاں رہے انہوں نے  
مشرقی پاکستان کے شہری کی حیثیت سے مشرقی پاکستان میں service اور jobs  
وغیرہ کی جتنی facilities ہر پاکستانی کو حاصل تھیں وہ انہوں نے enjoy  
کیں۔ وہ آج کیسوں میں کیوں ہیں اس پر دیکھ رہیں بھی ہے۔ لیکن میں جب پاکستان  
میں آنے کے بارے میں ان کی مخالفت کرتا ہوں تو اس کی کچھ وجوہات ہیں ان وجوہات  
کے متعلق میں دوبارہ بات ۱۹۶۷ء سے شروع کرتا ہوں۔ بہاری مشرقی  
پاکستان میں گئے اور دوسرے مہاجرین مغربی پاکستان میں آئے۔

جناب والا! یہ بھی ایک تاریخ ہے، جب وہ یہاں آئے تو کسی صوبہ نے بھی

انہیں رکھنے یا انہیں قبول کرنے سے انکار نہ کیا۔ اس حوالہ سے مہاجرین مشرقی پنجاب

سے آئے وہ زبان کے حوالے سے پنجاب میں settle ہو

گئے۔ ہاں ایک صوبہ تھا پنجاب جس نے میں سمجھتا ہوں کہ ۴۰ فیصد کے قریب

refugees قبول کئے۔ یہ بھی ایک history ہے۔ دوسرا صوبہ تھا سندھ جس نے

over 55% refugees کو قبول کیا۔ اس بنا پر کہ سندھ پاکستان کا تھا۔ جس پر ہیں خنزہ

بم پاکستان کے ایسٹ تھے اور ہمیں اس پر بھی خنزہ ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ پاکستان تاقیامت قائم

رہے گا۔ اور میری جو تلاش ہوگی وہ اس ملک میں دفن ہوگی۔ ایک پاکستانی کی حیثیت سے

ہمیں کسی سٹیفکیٹ کی جناب والا! ضرورت نہیں ہے ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستانی پیدا

ہوئے اور ہم پاکستان میں ہی دفن ہوں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت بھی اس

خطے میں مختلف قومیں آباد تھیں ان کی اپنی زبان تھی، ان کی تہذیب تھی، ان کا اپنا تہذیب

[Mr. Aijaz Ali Khan Jatoi]

تھارا اور انہوں نے مل کر اس ملک کو جنم دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب داللا! کہ وہ مہاجر جو انڈیا سے آئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ contradiction

ہے عجیب controversy ہے یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کئی منصوبہ

نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں مائیکریشن ایک زون سے دوسرے زون میں کی جائے

گی۔ بہر حال اپنے ساتھ کیا لائے اگر ان کا اتنا بڑا influence تھا۔ وہاں

پر تو مانتے تھے جب انڈیا سے کوئی پارٹ اگ کر کے پاکستان میں شامل کرتے تو

پھر ہم مانتے کہ ٹھیک سے یہ اپنی زمین بھی لائے ہیں۔ اپنی تہذیب بھی لائے ہیں

اپنے زبان میں لائے ہیں۔ اپنے ثقافت بھی لائے ہیں

کیونکہ زمین سے بنتے ہیں قومیں۔ ہوا میں نہیں

بنتے ہیں۔ قومیں جناب! ثقافت اور زبان زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جو مہاجر

یہاں پر آئے تو ہم وہیں بہاریوں نے وہاں پر گڑ بڑ شروع کی۔ اس صورت حال

میں کہ وہ اس صوبے کے جس نے انہیں پناہ دی تھی اسی کے مصلحت خلاف رہے۔

ان کی تہذیب سے انکار کیا ان کی زبان سے انکار کیا۔ یہاں تک کہ جب ہم طالب علم

تھے اور طالب علموں کے حقوق کی بات کرنے کے لئے جب ہم باہر نکلتے تھے تو گورنمنٹ

سے پہلے ہمیں یہ بھائی مارتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم ان سے مانگ رہے ہیں

کہ جی یہ ہمارے ڈیمانڈز ہیں یہ ہماری grievances ہیں۔ اس کے بعد

چالیس سال میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے جناب! چالیس سال میں کتنی قومیں

کہاں پہنچیں آپ دنیا کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیں۔

یہاں پر جناب جو مہاجر انڈیا سے آیا اس نے merge ہونے کی کوشش ہی

نہیں کی۔ پنجاب سے بھی لوگ وہاں آئے۔ barages کے حوالے سے فریڈ سے

لوگ وہاں آئے۔ مزدوری کے حوالے سے۔ مجھے آپ ایک بھی حوالہ دے دیں ان دونوں

قوموں کا نمونہ جو کھڑا ہو کر یہ کہے کہ سندھ میں وہ اگ قومیت ہوں میں سمجھتا

ہوں کہ، time factor گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ وہاں merge ہو گئے مجھے

ذاتی طور پر ہے ہمارے دادو ڈسٹرکٹ میں کئی خاندان ایسے ہیں جو پنجاب سے barages کے حوالے سے آئے ہیں۔ جو سدھ سے مزدوری کے حوالے سے آئے ہیں۔ جنگلات کاٹتے رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص ہماری زبان بولتا ہے۔ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے حضرات، یہاں تک کہ انہیں ہماری زبان سے بھی نفرت ہے۔ ہمارے رہن بہن سے بھی نفرت ہے۔ چالیس سال میں ایک منٹ کے لئے اس یورپ میں نہیں آئے کہ ہم پاکستان میں آگئے ہیں، ہم سندھ میں رہتے ہیں ہمیں سندھی زبان کو اپنانا چاہیے۔ یہ ۳۷ کے آئین میں شق موجود تھی۔ سپیلیٹ پارٹی کے دوست بیٹھے ہیں یہاں پر مجھے کاؤنٹر کریں۔ یہ شق موجود تھی۔ کہ دس سال کے عملے میں سندھی زبان کو سندھ کی قومی زبان بنایا جائے گا۔ وہ اس لئے رکھا گیا تھا۔ کہ دس سال ان کو دینے گئے تھے کہ آپ دس سال میں سندھی زبان کو اپنائیں۔ ہوا کیا۔ انہوں نے جب سٹوڈنٹس تھے سندھی کے ایک اختیاری پرپے کو بھاڑ دیا۔ اختیاری مضمون سندھی لینے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں۔ جناب والا۔ جو حضرات آج بہت بڑے صنعت کار ہیں میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جناب آپ اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے تھے آج بہت بڑے صنعت کار ہیں۔ بڑا ان کا نام ہے ہم ان کو welcome کرتے ہیں۔ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم نے welcome کیا لیکن جناب والا! میں آپ کو یہ واضح طور پر بتاؤں گا کہ آج جو سندھ کے مخصوص حالات ہیں۔ یہ آپکو facts figures کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ اور میں انصاف مانگنا چاہتا ہوں۔ اس سینٹ سے کیونکہ یہ سینٹ consist کرتا ہے۔ چاروں صوبوں کے نمائندوں پر جو فیڈریشن میں ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے انصاف نہیں دیا۔ تو خدا پر میرا بھروسہ ہے۔ وہ ضرور انصاف کرے گا۔ مجھے بتائیں ۷۷ کے بعد جو سندھ میں عجیب تبدیلیاں آئی ہیں۔ کون سے قانون کون سے آئین کے تحت آئی ہیں کہ پنجاب میں اردو

[Mr. Aijaz Ali Khan Jatoi]

سپیکنگ ۴۷، ۴۸ فیصد۔ پنجاب میں پنجابی اور سرسائیکی سپیکنگ اعشاریہ ۹۲ فیصد۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے جناب۔ پشتو ہندکو وغیرہ ملا کر ۷۷ فیصد سندھی ۰.۸ فیصد۔ بلوچی وغیرہ ۵.۵ فیصد میں آتا ہوں جناب اب فرنیٹر کی طرف۔ فرنیٹر میں اردو سپیکنگ ۸۳.۵ فیصد۔ پنجابی اور سرسائیکی سپیکنگ ۷.۴ فیصد۔ پشتو سپیکنگ ۸.۵۳ فیصد اس کے بعد جناب سندھی سپیکنگ ۲۰.۶۰۵ فیصد۔ پھر جناب بلوچی سپیکنگ ۰.۹۰۹ فیصد۔ پھر بلوچستان کی طرف آتا ہوں ۳۷ فیصد ان میں اردو سپیکنگ پنجابی اور سرسائیکی سپیکنگ ۳۲.۵ فیصد، پشتو ہندکو وغیرہ ۷.۰۷۵ فیصد کیونکہ وہاں پشتون آباد ہیں ان کی اپنی زمین ہے وہ وہاں مانگ ریٹ ہو کر نہیں گئے۔ وہ وہاں آباد ہیں۔ اس کے بعد جناب سندھی سپیکنگ ۲۹.۸ فیصد اور بلوچی سپیکنگ ۵۷.۹۹ فیصد۔

اب میں آتا ہوں جناب سندھ کی طرف۔ جس بنیاد پر میں کسی بھی انٹرنیشنل ریفرنڈم کو اپوز کروں گا۔ سندھ کے حالات جناب یہ ہیں کہ وہاں ۲۲.۶۶ فیصد اردو سپیکنگ۔ پنجابی اور سرسائیکی سپیکنگ ۷.۶۹ فیصد۔ پشتو سپیکنگ ۳.۰۶ فیصد۔ سندھی سپیکنگ ۵۱.۶۴ فیصد۔ اب جناب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں ریفرنڈم میں رہتے ہوئے اپنا حق مانگتا ہوں۔ کہ میرے ساتھ اس عمل کے ساتھ بقیہ دس سال میں ہم اقلیت بن جائیں گے۔ میری تہذیب میری زبان میری ثقافت خطرے میں ہے۔ میں چلا چلا کر کہتا ہوں پاکستان کی حکومت کو کہ خدا را آپ میری ثقافت میری زبان میری تہذیب سے نہ کھیلیں۔ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں کسی ایسے مقام پر جا پہنچوں.... دنیا کا کوئی آئین یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کی زبان کسی کی ثقافت کو تباہ تبس تبس کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے ہم پاکستان میں کج نیت سندھی رہنا پسند کریں گے۔

بیمینٹ ریڈانڈین رہنا پسند نہیں کریں گے۔ امریکہ کا ایک پراسیس ہے جس کے تحت وہاں کاجو

اصل آبادباشندہ تھا۔ اس کو اس طرح سے مشایا گیا۔ کو لمبیں کے invasion کے بعد کہ وہاں پر اب festivals ہوتے ہیں یعنی نظم دیکھیں تاریخ کا festivals ہوتے ہیں ریڈ انڈینز کے وہاں پر کہ جی آپ دیکھیں یہ بیچارے ریڈ انڈینز جو اس دھرتی کے اصل وارث تھے۔ ان کا رہن سہن ان کی روایات اور ان کی ثقافت اس طرح سے تھی۔ جناب والا! ہم موت تو پسند کریں گے۔ لیکن فیٹیل کرنا پسند نہیں کریں گے۔ ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی آخر ہم کہاں جائیں اس ایوان سے انصاف نہیں ملے جو کہ نیشنل اسمبلی ہے اس سے بچے ایوان صوبائی اسمبلیوں کے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ جی یہ تو فیڈریشن کا آئیڈیہ ہے۔ آج جب منسٹر صاحب نے کہا کہ جی میں نے گورنمنٹ آف سندھ کو کہا تھا۔ جب ہم گورنمنٹ آف سندھ میں یہ پیش کرائیں گے تو وہ بولیں گے۔ جی نہیں یہ تو فیڈریشن کا معاملہ ہے۔ آپ اسے سنٹر میں لائیں کیونکہ پالیسیاں تو وہاں بنتی ہیں۔ ہم تو ان کو صرف implement کرتے ہیں۔

جناب والا! اس ملک کی خاطر آج اگر کھڑا ہو کر یہ بات کرتا ہوں آپ کے سامنے تو خذرا اس پر توجہ دیں۔ یہ بڑا احساس مسئلہ ہے کیونکہ جناب سندھ میں آبادی میں تبدیلیاں آئی ہیں اس کے اوپر بھی میں آپکو بتانا چاہتا ہوں پھر دیکھیں کہ میرے کہیں ہیں یا نہیں ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد سندھ صوبہ کی آبادی ۱۹۴۷ میں ۴۰ لاکھ تھی۔ ۹۵۔ فیصد سندھی اور ۵ فیصد غیر سندھی۔ اور میں آپکو یہ بھی بتا دوں انڈین پرنیڈنٹی بیٹی سے جب ہم الگ ہوئے تھے۔ اس کی وجوہات تھیں اس کے لئے ایک بہت بڑی جدوجہد کی گئی تھی۔ سر غلام حسین جاٹ نے جب یہ کیس پلڈ کیا تھا اس میں باقاعدہ مٹھوس دلیس دی گئی تھیں کہ جناب ہماری ثقافت ہماری تہذیب، ہماری زبان خطرے میں ہے اس لئے اب ہم بیٹی پرنیڈنٹی میں نہیں رہ سکتے۔ نتیجتاً سو سال کی جدوجہد کے بعد سندھ بچی پرنیڈنٹی سے الگ ہوا اور اس نے اپنا مقام پایا۔

اس کے ساتھ ساتھ جناب میں آپ سے عرض کروں کہ ۱۹۴۷ میں سندھ کی آبادی

[Mr. Aijaz Ali Khan Jatoi]

۴۰ لاکھ تھی۔ وہ کس طرح بڑھتی ہے، ۱۹۴۷ء سے ۱۹۵۱ء تک چالیس لاکھ آبادی ساٹھ لاکھ ۴۵ ہزار تک پہنچی ہے ۱۹۵۱ء تا ۱۹۶۱ء یہ مردم شماری کی فکر نہ آپ کو بتا رہوں۔ یہ میں نے نہیں بنائیں۔ یہ آپ کتاب سے کنفرم کر سکتے ہیں۔ ۸۳ لاکھ ۶۳ ہزار ۱۹۶۱ء سے ۱۹۷۳ء تک ایک کروڑ ۴۱ لاکھ ۵۶ ہزار ۱۹۷۳ء سے لے کر ۱۹۸۱ء تک ایک کروڑ ۹۰ لاکھ ۲۹ ہزار اس کے بعد جناب ۱۹۸۷ء میں وہ سواد کروڑ تک پہنچ چکی ہے اب آپ دیکھیں سندھ کے مخصوص حالات ہیں۔ سابقہ گیارہ سالہ دور میں سے میں تین سال منہا کر دیتا ہوں کیونکہ ایک stage democratic system تھا، آٹھ سال تک ایک جائز ڈکٹیٹر اس ملک پر حکمران رہا۔ جو وہ رات کو خواب دیکھتا تھا صبح کو وہ آرڈیننس بن جاتا تھا۔ ہم نے یہاں بار بار کہا کہ جناب سندھ کے حالات خراب ہیں سندھ کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ ان پر ذرا توجہ دیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ جب بونہو صاحب کی فوجی حکومت جس کے ساتھ میرے اختلاف رہے لیکن اختلاف رائے اختلافات نہیں تھے۔ مخالفت، برائے مخالفت نہیں تھی۔ بلکہ وہ اصولوں پر اختلافات تھے ان کو وزیر اعظم بنا کے سندھ کو کیا ملتا ہے دیکھیں، انہوں نے ہمیں تحفہ کیا دیا۔ جناب مرکز سے ایک جنرل رحیم الدین خان گورنر سندھ بنائے گئے۔ مظلم کی انتہا دیکھیں۔ غوث علی شاہ صاحب جو کہ ایم پی اے نہیں تھے انکو چیف منسٹر بنایا گیا۔ سندھ کے اکاؤنٹس کا کس طرح حساب لیا جا رہا ہے۔ میں آج کچھ حکومت کو بھی میں متنبہ کر رہا ہوں۔ اس ماؤس کے توسط سے آپ کے توسط سے کہ جناب والا آپ کو سندھ کے دوٹ کی وجہ سے یہاں وزارت عظمیٰ ملی ہے۔ اور میں آپ پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں سندھ کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ یہ جو آپ نے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم معاہدہ کیا ہے اس کو شائع کریں تاکہ سندھ کے بد نصیب عوام کو یہ پتہ چلے کہ یہاں سودے بازی کس طرح سے ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے تکنیکی زبان استعمال کی ہے اس معاہدے میں وہ کراچی ڈیکولیشن جس کو آپ بولتے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ جو جو پاکستانی باہر بھجنا ہوا ہے

اس کو ہم پاکستانی شہریت دے کر یہاں لائیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں جناب کہ یہ بہاری کسی motive کے تحت یہاں آ رہے ہیں یہاں آ کر یہ امن و امان کو تنہا نہیں کریں گے۔ سندھ کو خانہ جنگی کے اس میں لے کر جائیں گے جہاں پر کوئی چیز نہیں بچ سکے گی۔ جب اس ملک کا وہ اہم صوبہ اور صاحب جلتا ہے گا۔ تو یہ ملک نہیں بچ سکے گا۔ اس لئے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں پتہ نہیں کتنے RAW کے ایجنٹ ہیں ان کی تو tradition رہی ہے۔ tendency یہ ہے۔

الفتح اور البرکات کی اس لئے ہم ان کو سندھ میں لانا پسند نہیں کریں گے۔ سندھ سراپا احتجاج بنا ہوا ہے عورتیں بچے تک باہر نکل کر جلوس نکال چکے ہیں بغیر دوپٹوں کے عورتیں نکلی ہیں۔ لاڈکانہ شہر میں وزیر اعظم صاحبہ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے شہر میں بیچر دوپٹوں کے عورتیں نکلی ہیں۔ انہوں نے جلوس نکالا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر بہاری لائے گئے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس لئے آپ کو واسطہ دیکر بولتا ہوں کہ سندھ کے مخصوص حالات کو سوچیں اس کو سمجھیں پھر یہ فیصلہ کریں۔

جناب میں آپ سے عرض کروں کہ کراچی سے ایک لیڈر صاحب جو کہ آج کل الگ قومیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ خود ۱۹۷۱ء میں یہاں پر آئے جو خود بہاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سندھ سے پنجتون اور پنجابی کو نکالیں گے۔ ہم سندھ سے ان کو نکال دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ جناب یہ آپ کا حق نہیں ہے

یہ حق میرا ہے you are not son of the soil, I am son of the soil

کہ میں کس کو رکھوں اور کس کو نکالوں اگر کوئی دانا آباد بھی ہیں تو یہ حق میرا ہے۔ کہ میں کس کے خلاف complaint کروں۔ جناب آپ کے ساتھ میں تعاون کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ کیونکہ کراچی میں آپ نے یونیورسٹی پر حملہ کر کے میرے اس عظیم شاعر۔ افسوس کی بات ہے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ کہتے ہیں جی کیا کریں وہ ورکرز ہیں۔ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ جناب کیا کرتے ہیں ہمارے معزز

[Mr. Aijaz Ali Khan Jatoi]

پروفیسروں کو اور وہاں جو لڑکے تعلیم لے رہے ہیں ان کو مارتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں آج میں اس ناؤس میں کہہ کے کانپتا ہوں شاہ جو رسالو کو میں اس پر زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ جی provoke کرویا ہے شاہ جو رسالو، جس نے ہمیں کیا کیا نہیں سکھایا۔ اس نے جناب بین الاقوامی دعادی ہے عوامی سطح پر دعادی ہے اس شاہ کے رسالے کی توہین کی گئی ہے سزائی کی گئی جس سے مندرجہ تعاقبی طور پر جڑا ہوا ہے زبانی طور سے جڑا ہوا ہے میں کہتا ہوں سینٹ کی کمیٹی چلے میں خلیفہ بیان دیتا ہوں۔ آپ چلیں قرآن شریف اٹھوائیں ان سے اگر یہ بات ثابت نہ ہو تو آپ مجھے اس فلور پر پھانسی دے دیں بائبل وہاں توہین کی گئی ہے پیپلز پارٹی والوں کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جناب والا! آپ بلیک میل ہو رہے ہیں۔ اتنے زیادہ بلیک میل نہ ہوں میری تمنائیں یہی ہیں ولی طور پر چاہتا ہوں کہ خدا کرے آپ کی حکومت چلے یہ جمہوری ادارے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ چلیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بلیک چھوڑے سے گروپ جس نے ۱۲۔ ووٹ آپ کو دیئے ہیں اس سے گھرا کر بلیک میل ہو کر آپ وہاں حاکم surrender کریں۔ آپ کو سندھ کے سفادات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ کیوں کہ آپ کو اس طرح کا اینڈریٹ دیا گیا ہے یہ اینڈریٹ تبدیل بھی ہو سکتا ہے اگلے انتخابات اس طرح سے نہیں ہوں گے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں اگر ان الٹو پر آپ نے کوئی سودے بازی کی ہم پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں گے۔

جناب مجھے کافی بولنا تھا لیکن کیا کریں وقت کم ہے میں آپ کا بہر حال ہنہ دل سے شکر گزار ہوں اور میں سینٹ کے حضرات سے اپیل کرتا ہوں۔ اس ناؤس کے سامنے خدا کے واسطے دے کے بولتا ہوں کہ ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ آپ ختم کریں کیونکہ آپ پنجابی سندھی بلوچی پٹھان نے اپنی زمینیں دے کر ملک کو بنایا ہم نے کچھ نہ کچھ provide کیا۔ ہم نے کچھ نہ کچھ قربانیاں دی ہیں۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لئے میرے کیس کو سمجھیں اسکو کوئی صوبائی تہذیب یا کوئی اور چیز نہ سمجھیں بہت بہت شکریہ!

جناب ڈپٹی چیئرمین: اب معزز اراکین سے گزارش ہے کہ ابھی تین محرمین نے اوربانا ہے اور اس کے بعد کوئی ۱۸ ممبر صاحبان ہیں۔ جنہوں نے بولنا ہے تو آپ ماؤس کو آج کس طرح چلانا چاہتے ہیں۔

پروفیسر خورشید احمد: اس کو ایک بجے تک جاری رکھیں۔ اس کے بعد کل بھی جاری رکھیں

جناب ڈپٹی چیئرمین: ٹھیک ہے، قاضی عبدالحمید صاحب آپ اپنی تقریر شروع کریں۔

جناب عبدالحمید قاضی: بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمین صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں

آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اس تحریک التواہد پر اپنے خیالات کا اظہار کروں جو کہ

بھاریوں کو پاکستان لانے کے موضوع پر ہے۔ جناب والا یہ کہا جاتا ہے کہ ڈھائی لاکھ بھاریوں

کو پاکستان میں لانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ تعداد کہتے ہیں ۵ لاکھ سے کچھ کہتے ہیں۔

ڈھائی لاکھ ہے اگر ڈھائی لاکھ ہے تو اس کی repatriation پر یعنی ان کو

پاکستان میں لانے کے لئے کم از کم transportation cost پانچ سو ملین ڈالر بنتی ہے

اور اگر یہ پانچ لاکھ ہیں تو ایک ہزار ملین ڈالر کی رقم کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ جب

وہ یہاں پر آباد ہوں گے تو اس پر بھی کم از کم ایک بلین ڈالر کا نسخہ ہے ان کی رہائش کے ان

کے قیام کے لئے جب ہم ان کو شہریت دیکر لانا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ ہم پر فرض

ہو جاتا ہے کہ ان کو یہاں پر rehabilitate کریں۔ ان کو مسکنات دینے پڑیں

گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے مالی وسائل کیا ہیں اس وقت factual

پوزیشن یہ ہے کہ foreign loan جس کے تلے ہم دے ہوئے ہیں وہ ۲۰۰ بلین

ڈالر بنتا ہے یہ فکر ۸۸-۸۷ کے ہیں جو قرضے ہم نے واپس کرنے ہیں اس کے

ساتھ ساتھ ہماری جو کوئی deficit financing ہے وہ ۱۲-۱۱ بلین روپے ہے

اس وقت پوزیشن یہ ہے اگر ہمیں loan کی قسط دینا پڑتی ہے یا

foreign loan کا interest ادا کرنا پڑتا ہے تو ہم re-scheduling

کر کے اور زیادہ قرضے کر اسی قرضے کا حصہ واپس کر رہے ہیں یہ تو ہمارے مالی

[Mr. Abdul Majid Kazi]

حالات کی پوزیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک عین حقیقت ہے آئی ایم ایف والے کوئی قرضہ دیتے ہیں تو وہاں پر اپنی شرائط منواتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انحصار سپورٹ پر کریں ان کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ جناب ایگزیکٹو پریکٹس لکٹور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ٹریف ہیں بجلی اور پانی کے ان کے ٹریف بڑھاؤ سبب کہنے کا یہ ہے نہ سہرہ چیز بتاتے ہیں جو ہمیں قابل قبول نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن انہی ہر بات پر ہمیں اس لئے غور کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں قرضہ چاہیے۔ حالانکہ اگر ہم ایگزیکٹو پریکٹس لکٹور کو یہ ایک واضح بات ہے اس برابر اثر پڑیگا۔ اگر ہم گیس یا بجلی کا ریٹ بڑھائیں تو اس عوام پر بڑا اثر پڑے گا۔ لیکن ہمیں اسی لئے ان شرائط پر سوچنا پڑتا ہے اور ان کو ماننا پڑتا ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ ہمیں قرضہ نہیں دیتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ ماگر کوئی پروجیکٹ ہے جس پر فارن لون ملتا بھی ہے تو اس کو کو کر کرنے کے لئے ہمارے پاس لوکل کرنسی میں بھی پیسہ نہیں ہوتا۔ اس پر اجیکٹ کو ہم آگے چلا سکیں اس وقت ہمارا جو inflation rate ہے وہ قرضہ پرائیمری صاحب نے کہا ہے کہ ۱۸ فیصد ہے یہ تو ہمارے معاشی حالات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی ایک عین حقیقت ہے ہمارا پانی کا انتظام ناقص ہے پینے کے پانی کا انتظام نہیں ہے ایجوکیشن کے لئے ہمارے پاس خاطر خواہ انتظام نہیں ہے صحت کے لئے ہمارا کوئی انتظام نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہمارے priority ہیں وہ ہم کو ملنے چاہئیں۔ جو حکومت دینے سے قاصر ہیں یہاں تک کہ گورنر بلوچستان نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان کی پہلی ہے provide drinking water یہ حالت ہمارے لوگوں کی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رپورٹ ہے جو ہمارے منسٹر صاحب نے کہا تھا۔

63 percent of people in agriculture are living in an unequivocal poverty.

تو ہماری جو معیشت ہے اور ہمارے جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ان کے حالات کیا ہیں آپ پورے پاکستان کو دیکھ لیں۔ ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں تین سال پہلے جب

خشک سالی ہوئی تھی۔ تو desert کی کیا حالت ہوئی تھی ہم ان کے لئے  
کیا کچھ کر سکے۔ ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر Arid نون ہے اور پنجاب  
کے اندر Arid Zones ہے فریڈز میں ہے بلوچستان میں نون ہے ان لوگوں  
کی رہائش کیا ہے کس طریقے سے وہ رہ رہے ہیں۔ کونسی سہولتیں ان کو میسر ہیں  
یہ کہوں گا۔ کہ They are living in sub-human conditions.

لہذا ان کے قیام کے لئے ان کی بہتری کے لئے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کوشش  
کر کے ان کے حالات کو بہتر بنائیں یا ہمارے پاس جو پیسہ بچ سکتا ہے یا بچا کر ان کی  
حالت بہتر کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا  
اس وقت آپ بیرون کاری پر نظر ڈالیں یہ ایک حقیقت ہے جس پر پورا ٹاؤس پورا  
ملک چلا رہا ہے اتنے لوگ بیرون کاری میں ان کے لئے کچھ نہ کچھ انتظام کیا جائے آج  
صبح بھی آپ نے دیکھا کہ ممبر صاحبان کتنے جوش و خروش سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا  
کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس unemployment بہت زیادہ  
ہے لاکھوں لوگ ہیں۔ ادا میں جو کہا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ صحیح نہیں ہے۔

There are many people who are unemployed. This may run into a few lacs.

تیس چالیس لاکھ سے بھی زیادہ ہونے میرے پاس صحیح فکر نہیں ہیں میرے خیال میں  
تیس چالیس لاکھ لوگ بے روزگار ہیں یا underemployed ہیں educated and  
uneducated یہ سب ان کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لئے یہ ضروری  
ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو اپنی فکر میں لائیں اور ان کے لئے پورا پورا انتظام کریں۔  
اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ جو لوگ ڈل ایسٹ گئے تھے وہاں پر recession  
ہے کافی لوگ واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے اتنا زبرد دار ہمارے لئے کیا ہے اور  
پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا ہے تو کیا انکا حق نہیں ہے کہ جب وہ واپس آئیں تو ان کے  
لئے ہم کوئی انتظام کر دیں۔ تو یہ حالات میں نے اس لئے آپ کو بتائے کہ

[Mr. Abdul Majid Kazi]

یہ ہماری اقتصادی پوزیشن ہے یہ ہماری ترجیحات ہیں یہ ہمارے مسائل ہیں اب ان حالات کے تحت کہاں تک یہ چیز صیح ہے کہ ہم اورنگ پور سے ٹائٹس اور انکو یہاں لاکر بسائیں اور ان کے اوپر خرچہ کریں۔ جناب یہ تو اول نمونہ بند روڈیشر دانی بات ہے ہمیں تو پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں ان کا استفادہ کریں دو مہینوں کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ لہذا میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے پاکستان کی پوزیشن ایسی ہے یہ نہیں کہ ہم اور کسی قسم کا بوجھ اپنے ذمہ اٹھائیں۔۔۔۔۔

(Interruption)

جناب ڈیپٹی چیئرمین۔ میرا بار بار ناؤس سے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خاموشی رہے تاکہ سپیکرز صاحبان جو فرماتے ہیں وہ بھی سن سکیں اور وہ اپنے Messages convey کر سکیں۔ اسی طرح بہتر رہے گا۔ تو میری ایک دفعہ پھر گزارش ہے اگر ناؤس کے دوران کو lobbyng or meeting کرنی ہے تو وہ ناؤس کے باہر کریں لیکن یہاں بیٹھ کر کم از کم ناؤس کے decorum کا خیال رکھیں۔

Mr. Abdul Majid Kazi: Thank you Mr. Chairman.

سراسر کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ آئیں گے تو وہ پاکستان کے کسی اور حصے میں رہیں گے کراچی یا سندھ میں نہیں آئیں گے تو اس کے متعلق میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی لوگ بہار سے آئے ہیں۔ ان کو پہلے بھی کیا گیا تھا جب وہ بہار سے آئے تھے تو ان کو کہا گیا تھا کہ تم فلاں فلاں جگہ جاؤ پنجاب اور بہت ساری جگہ انکو بھیجا گیا۔ لیکن ۵ فیصد تو وہاں گئے ہی نہیں وہ ادھر سندھ میں رہ گئے۔ اور جو ۵ فیصد گئے تھے وہ اپنا مسکن دکان بیچ کر واپس آ گئے۔ سرگودھا میں خوشاب اور پنجاب سے بہت سارے حصوں سے لوگ واپس آ گئے اس کے علاوہ ابھی میں آپ کو اخبار کی cutting دکھاتا ہوں۔ جس میں یہ کہا گیا ہے جو بھی لوگ وہاں سے آتے ہیں۔۔۔۔۔

Through illegal means or otherwise they come back to Karachi.

یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر کوئی اور کہے کہ ہم ان کو رکھیں گے تو بھی یہ ناممکن ہے کہ وہاں پر رہیں یا کراچی نہ آئیں۔ اب تک کا جو ریکارڈ ہے اس میں سب لوگ کراچی آکر رہے ہوئے ہیں۔ جن کو سکھر میں مکان دیئے گئے تھے۔ سکھر جو سندھ کا حصہ ہے وہ بھی وہاں پر اپنے مکانات بچ کر کراچی آگئے ہیں لہذا کراچی جو سندھ کا حصہ ہے اس پر عبور اڑ پڑے گا۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ واپس کراچی میں آئیں گے اب سوال آتا ہے کہ کراچی کی پوزیشن کیا ہے۔ کراچی پاکستان کی جان ہے بہت بڑا شہر ہے پورے پاکستان کا نمبر ایک شہر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ شور مچا ہوا تھا کہ جناب پورے ناردرن ایریا میں مہاجرین influx ہے اور کوئی بھی وہاں سے آدمی نہ آئے یہ شور مچ رہا تھا کہ درک پر مٹ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اس مختصر سے عرصے میں ہم نے کوئی قسم کی چیز نہیں دیکھی ہے اور کہ لوگ جو ہیں وہ چلا آئے کہ ہمارے پاس problems ہیں۔ ان کی وجہ سے roits اور ہارٹل اسپورٹ جو ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے کہ ہم برداشت کر سکیں۔

basic facilities  
کی فراہمی break down ہو گئی تھی اور یہ شور اٹھا کہ جناب کوئی مزید influx نہیں آنا چاہیے۔ کوئی regulation بننا چاہیے سنٹرل کوارٹرز اس بارے میں کہا گیا۔ سابقہ حکومت کے دور میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھیں اس کے بعد آج کیا ہو رہی ہے۔ آپ پانی کے مسئلے کو لے لیں ہمارے پاس جو پانی آتا ہے وہ ۱۲۰ میل دور سے آتا ہے۔ کہیں بھی اگر پانی کا تانہ ہو جائے، یا کہیں سے پائپ وغیرہ ٹوٹ جائے تو کراچی شہر بالکل پانی کے بغیر رہ جاتا ہے دوسرا پانی کا source سمندر ہے سمندر سے لاکر پانی استعمال کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جو آج کی مینیکلوجی ہے اس کے تحت تو سعودی عرب جیسا ملک ہی سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنانے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے ہم لوگ تو یہ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ لہذا یہ جو کراچی کے problems ہیں وہ اسی قسم کے ہیں۔ جن کو حل نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔

ایسی صورت حال حیدرآباد کی ہے۔ وہاں پر بھی پہلے ہی population زیادہ

[Mr. Abdul Majid Kazi]

ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اس لحاظ سے یہ بھی مناسب نہیں ہوگا کہ ان کو یہاں پاکستان میں لایا جائے۔ اگر وہیں یہ assurance بھی دی جائے کہ وہ یہاں نہیں آئیں گے تو بھی ہم اس چیز کو بالکل نہیں مان سکتے۔ اس کے علاوہ میرے بھائی اعجاز صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے میں بالکل سو فیصد اس کی تائید کرتا ہوں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے ہے کہ ہماری ثقافت متاثر ہوئی ہے، اس میں صرف add کرنا چاہوں گا۔ کہ کچھ عرصہ پہلے جب حیدر آباد میں ڈسٹرکٹ کونسل اور سونپل کمیٹی کے ایکشن ہوئے تھے۔ اس موقع پر جو اس وقت کے میئر تھے اس نے ایک سکول جو کہ حسین آباد میں تھا۔ اس سے سندھی میڈیم کو ختم کر دیا کیونکہ وہ سکول ان کے اندر تھا۔ اس قسم کی جو زیادتیاں ہوئی ہیں، ان زیادتیوں کو بیان کرنے میں کوئی غار نہیں ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں سندھ کا ایک بچہ یہ خیال رکھتا ہے کہ جناب ہمیں کوئی ایسے آدمی نہیں چاہیے ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ہم بالکل اس چیز سے کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو یہاں آباد کیا جائے۔ لیکن صاحبہاں یہ دیکھ بھی ضرور ہوتا ہے کہ ہمساری سندھ کی ثقافت کی ہے، ہمانداری کیا ہے، ہم اپنا وہ شرف تو نبھا چکے ہیں اور نبھاتے ہیں ابھی تک، لیکن اب ہماری ایسی پوزیشن ہو گئی ہے کہ خدارا ہماری ثقافت کو ہماری identity

کو ختم نہ کریں۔ اور ہمیں جینے کا حق دیں جو Constitution کے تحت ہیں ملاحظہ ہو ہے لہذا اس کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے یہ ایک گھمبیر مسئلہ ہے اور اس سے سندھ کا سکون ختم ہو جائے گا۔ لوگ اس بات کے اوپر بالکل تلے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ۱۹۴۷ء کے بعد جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو دہرانا مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تھوڑا سا irrelevant ہو جائے گا۔ لیکن میں یہ آپ کو عین حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو بھی

اعجاز صاحب نے کہا ہے وہ صحیح ترجمانی کی ہے اور سندھ کے متعلق جو انہوں نے فرمایا ہے  
میں اس کو repeat نہیں کروں گا۔ بہت بہت شکریہ !

جناب ڈپٹی چیئرمین : میرزا خان بھارانی صاحب

میرزا خان بھارانی : جناب چیئرمین، شکریہ ! میں اپنے فاضل دوستوں کے points  
کی تائید کرتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ لیکن حقائق میں جانے سے پہلے میں چاہوں گا  
کہ تھوڑی سی historical background آپ کے توسط سے اس معزز ایوان کے سامنے  
بیان کروں تاکہ مسئلہ کی جو اہمیت اور سندھ کے لوگوں کے جو جذبات ہیں اس سے  
آگاہی حاصل ہو سکے۔

جناب والا ! ۱۹۴۶ء میں جب تقسیم ہند عمل میں آئی اور پاکستان وجود میں آیا اس  
وقت انڈین مسلم کو یہ option دیا گیا تھا، حالانکہ جیسے جنرل صاحب نے اپنی تقریر میں  
فرمایا کہ اس تقسیم کا کوئی written mandate نہیں تھا کہ لیکن اخلاقی طور پر  
اس وقت کے مسلمانوں کو یہ option حاصل تھا کہ وہ پاکستان کے کس کس حصہ میں اگر جانا  
چاہیں تو وہ جا کر بس سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کچھ مہاجرین مغربی پاکستان میں آئے اور مغربی  
پاکستان میں آنے والوں کی بیشتر تعداد نے سندھ کی طرف رجوع کیا اور بہار کے مسلمان  
مشرقی پاکستان کی طرف کوچ کر گئے۔ کیونکہ انہوں نے ایسٹ پاکستان کو اپنے  
لیے زیادہ بہتر اور زیادہ مفید سمجھا۔

جناب والا ! ان بہاریوں کی نیگلڈڈیشن کے کیمپوں میں جو حالت ہے مجھے ان سے  
پوری ہمدردی ہے مجھے اس مسئلہ کی اہمیت کا احساس ہے میں جانتا ہوں  
کہ ان پر کیا گزر رہی ہے لیکن محض یہ کہہ کر کہ یہ انہی، ایک اخلاقی اور اسلامی  
مسئلہ ہے اور ان جذبات کے تحت، ان کو پاکستان میں لایا جائے، میں سمجھتا  
ہوں کہ یہ کیس کو صحیح plead کرنے والی بات نہیں ہے یہ حقائق سے  
قطع نظر، دھوکہ دہی اور غلط بیانی کرنے والی بات ہے۔

[Mir Hazar Khan Bijarani]

جناب والا! جس وقت ان کو یہ option دیا گیا تھا، انہوں نے اپنا یہ options لے کر آئندہ کے اپنے سارے options بند کر دیئے تھے۔ میں اس ایوان سے آپ کے توسط سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج چالیس برس کے بعد اگر انڈین مسلمان آپ سے یہ کہیں کہ صاحب ہم بھی پاکستانی ہیں، تو کیا آپ ان کو پاکستان میں بسانے کے لیے تیار ہوں گے اس سے زیادہ ایٹ پاکستان کے وہ بنگالی جو چالیس برس تک آپ کے ملک کا حصہ رہے اور پاکستانی کہلاتے رہے، اگر آج وہ یہ option دیتے ہیں کہ صاحب، ہم بھی پاکستانی ہیں اور ہمیں بھی ولایت پاکستان میں آباد کیا جائے تو کیا آپ ان کو بھی یہاں بسانے کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی طرح جناب والا یہ بہار کے لوگ کر کے ایٹ پاکستان میں جا کر بسے تھے تو یہ وہاں کے ہو کر رہ گئے تھے، جس طرح اب انڈین مسلمانوں کو آج آپ پاکستانی citizenship نہیں دے سکتے اسی طرح بہار کے وہ لوگ جو ایٹ پاکستان میں بسے ہیں ان کو قطعاً کسی صورت میں بھی پاکستان کی citizenship نہیں مل سکتی۔ ان کا کوئی right نہیں بنتا۔

جناب والا! میں زیادہ تفصیلات میں تو جانا نہیں چاہوں گا کیوں کہ جنوئی صاحب نے کافی تفصیل میں facts and figures سے اس پوائنٹ کے سامنے اپنے کہیں کو plead کیا ہے لیکن اس بات پر افسوس ضرور کروں گا کہ ایک اقلیت جو ایٹ پاکستان میں جا کر بسی تھی وہ دوفیصد کے قریب تھی انہوں نے بڑی بے دردی سے اس قوم کی ثقافت، اس قوم کے کلچر، اس کی تہذیب، اس کی زبان اس کے معاشرے کو نہ صرف بدلنے کی کوشش کی۔ بلکہ ان پر جاوی ہونے کی کوشش کی۔

ہونا تو جناب والا! یہ چاہئے تھا کہ یہ migrants جس سرزمین میں جا کر بسے تھے، اس سرزمین کے کلچر کو، اس کی زبان کو، ان کے طور طریقوں کو اپناتے، جس طرح سندھ کے ماضی کو آپ دیکھیں، سندھ میں صدیوں سے لوگ آتے رہے ہیں اور بستے

رہے ہیں، سندھ کی سرزمین بیاد غربت اور امن و آتشی کی سرزمین ہے انہوں نے ہمیشہ باہنیں پھیلا کر باہر کے لوگوں کو welcome کیا ہے لیکن سندھ میں جو بھی آیا اس نے سندھ کی زبان اپنائی، سندھ کے کچھ کو اپنایا، سندھ کے طور طریقوں کو اپنایا۔ جناب والا! آج بھی سندھ کی جو چھکاس فیصد interior آبادی جو بت وہ جو چون پر مشتمل ہے۔ وہاں باہر سے آئے ہوئے سید آباد ہیں۔ وہاں باہر سے آئے ہوئے پٹھان ہیں جو آباد ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو آج غیر سندھی نہیں کہتا۔ انہوں نے کبھی اپنی تہذیب کو سندھ کی تہذیب پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ انہوں نے خود کو اس رنگ میں رنگ ڈالا، اور سندھ کی تہذیب میں اپنے آپ کو ضم کر کے اپنے سندھی ہونے کا پورا پورا ثبوت دیا۔ آج سندھ کو آبادی ان کے ساتھ گھل مل گئی ہے۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ باہر سے آئے ہوئے سندھی ہیں اور یہاں کے اصل رہنے والے سندھی ہیں۔ تو یہ جب تک ایک کچھ ایک زبان ایک تہذیب کو اپنانے کی بات نہیں ہوگی۔ اس وقت تک یہ تفریق ختم نہیں ہونگی۔ مجھے افسوس ہے کہ یہاں جو پارٹیشن کے بعد ہمارے ہاں ہمارے مسلم بھائی آئے انہوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ سندھ کی زبان سیکھیں انہوں نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ سندھ کی ثقافت ضم ہو جائیں، سندھ کے طور طریقے اپنائیں یا سندھیوں کے قریب جانے کی کوشش کریں۔

جناب والا! وہ تو اپنے آپ کو آج بھی لکھنوی، بہاری، دہلوی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے منسوب کرتے ہیں۔ جس سے ہمیں دکھ پہنچتا ہے اگر آپ سندھ میں رہتے ہیں تو سندھی ہیں تو اپنے آپ کو سندھی کہلائیں۔ یہ دوریاں آپ غمزہ کیوں پیدا کرتے ہیں۔ آپ اپنی شناخت ابھی تک ہندوستان کی سرزمین سے کیوں کرتے ہیں۔ جب آپ ہندوستان چھوڑ کر یہاں آئے ہیں تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ ابھی تک اپنی شناخت وہاں سے کریں اور پھر مہاجر کہلانے کا کیا جواز ہے۔ آپ جب پاکستان آئے ہیں۔ آپ پاکستانی بن گئے ہیں تو کیا چالیس برس کے بعد بھی آپ مہاجر ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے میں یہاں اسلامی حوالے سے بات کروں گا کہ جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے تو وہاں

[Mir Hazar Khan Bijarani]

مھوڑے ہی عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان ایک باقاعدہ بھائی چارہ قائم کرنے کی رسم ادا کی تھی۔ اور آپس میں بھائی بندی کے رشتے میں منسلک ہونے کے بعد ان کا جو مہاجر والہ سٹیٹس معاہدہ ختم ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد وہ سب مسلمان تھے۔ وہ اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہلاتے تھے۔ لیکن یہاں انہوں نے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ چالیس برس کے بعد اور خاص طور سے وہ نسل جو پیدا ہی آزادی کے بعد ہوئی ہے ۴۷ء کے بعد سندھ کی زمین پر جنم لینے والے لوگ آج بھی اپنے آپ کو مہاجر کہلاتے ہیں۔ اس کے پس منظر میں آخر کو کونسی چیز ہے کیوں نہیں اپنے آپ کو سندھی کہلاتے؟ اور اگر مہاجر کہلانے پر جناب اللہ! اتنا ہی اصرار ہے تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے سندھ کے وہ پرلے باشندے اب مجبور ہو جائیں گے۔ کہ ان کے ساتھ برتاؤ بھی مہاجرین والا کیا جائے کیونکہ پھر مہاجر کا اس سرزمین پر کوئی سٹیٹس نہیں بنتا۔ آج افغانستان کے issue کی وجہ سے تیس لاکھ مہاجر ہماری سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ایک جذبہ اخوت کی بنیاد پر ان کو یہاں پناہ دی ہے یہ ہماری روایات ہیں جس پر ہم شروع سے عمل پیرا رہے ہیں۔ اور آئندہ بھی رہیں گے۔ لیکن ہم ان کو پاکستانی شہریت نہیں دے سکتے۔ اگر وہ مہاجر ہیں تو اپنی سرزمین پر لوٹ جائیں اور اسی طرح اگر یہ اصرار کرتے ہیں ہماری جو اس وقت ایسٹ پاکستان کے کیمپوں میں بند ہیں وہ مہاجر ہیں ان کو واپس مہاجر جانا چاہیے۔ ان کو یہاں سندھ میں جگہ دینے کی کوئی گنجائش نہیں یہاں پاکستان کی سرزمین پر ان کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے اور اگر ان کا مسئلہ اتنا ہی سہیڑی طلب ہے تو ٹھیک ہے ان ایک انٹرنیشنل سٹیٹس دلوانے کی کوشش کی جائے ان کو بین الاقوامی طور پر Immigrants declare کرانے کی کوشش کی جائے اور ایک انسانی جذبے کے تحت دنیا کے ان ممالک میں ان کو بھیجا جائے جہاں ان کے روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں۔ جناب سندھ میں ہمارے ماں کہاں ہے روزگار؟ پاکستان میں اس وقت بھی بے روزگاری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے لوگوں کو یہاں ابھی تک

صحیح طور پر پہننے کو کپڑا نہیں ملا ہے کھانے کو یہاں روٹی میسر نہیں ہوتی۔ تو آپ کس طرح یہ اضافی بوجھ برداشت کرنے کو تیار ہوں گے، سندھ کے اندر ہاجرا کا لوٹنا یہاں سے ان کے اور اس وقت بھی پچاس کروڑ کے قریب اخراجات کئے جا چکے ہیں ٹھیک ہے نہیں اس پر اعتراض نہیں ہے آپ ضرور ان کی حالت بہتر بنانے کے لئے ان کے اوپر خرچہ کریں وہ پاکستانی ہیں جو یہاں settle ہوئے ہیں، یہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں وہ ہمارے بھائی ہیں یہاں رہتے ہیں۔ ہم صرف دست بستہ ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا را ہمیں اپنا بھائی سمجھیں یہ اختلافات ختم کریں اپنے آپ کو ہمارے ساتھ منسلک کریں اور ایک بھائی چارے کا نفاذ قائم کریں جس سے نہ صرف سندھ میں ماحول بہتر ہو بلکہ پاکستان کے اندر بھی یہ جو tension پیدا ہوئی ہے یہ جو آئے دن فسادات ہوتے ہیں یہ جو آئے دن نسلی فسادات ہوتے ہیں کراچی اور حیدرآباد کے اندر ہم ان کو ختم کر سکیں۔ آخر بھائی بھائی کا گلہ کیوں کاٹ رہا ہے ایک دوسرے کا خون بہانے پر ہم کیوں تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہم کیوں بنے ہوئے ہیں۔ یہیں وجہ ہے جناب والا کہ ایک دوسرے کے قریب آئے کبھی کوشش نہیں کی گئی۔ ایک دوسرے کی تہذیب اور ثقافت کو اپنانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ صرف باتوں سے یہ کہہ دینے سے کہ ہم آپ کے پڑوسی ہیں۔ آپ کی سرزمین پر رہتے ہیں۔ آپ کے بھائی ہیں یہ کافی نہیں ہوتا۔ اس سے یہ tension دور نہیں ہوتی اس سے یہ نفرتیں ختم نہیں ہوتیں۔ بلکہ اس ستے اور نفرت بڑھتی ہے۔ اس سے تو اور دوریاں بڑھتی ہیں۔ میں تو نفع کرتا ہوں کہ ہمارے ان اردو بولنے والے بھائیوں کی جو ذمہ داریاوت سے جنہیں اس کے لاکھ احساس ہے وہ اپنی نوجوان نسل کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی آپ نے اس سرزمین پر رہنا ہے اپنے آپ کو پاکستانی سمجھیں اپنے آپ کو سندھی سمجھیں تب ہی آپ گزارہ کر سکتے ہیں حیرت تو اس بات کی ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ سندھی کیوں کہلاتے ہیں۔ پٹھان کیوں کہلاتے ہیں اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے ہیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے ہم پہلے پاکستانی ہیں۔ لیکن اس کے بعد جس سرزمین پر رہتے

[Mir Hazar Khan Bijarani]

ہیں وہاں بہاری ثقافت ہے ہماری ایک زبان ہے فیڈریشن آخر کہتے کسے ہیں فیڈریشن نام ہوتا ہے چند یونٹس کے اکٹھے رہنے کا۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے جو چار صوبوں پر مشتمل ہے اور یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ چاروں صوبوں کا اپنی ایک ثقافت ہے اپنی زبان ہے اپنا ایک کلچر ہے۔ آپ کس طرح ان حقائق کو جھٹکا سکتے ہیں کس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ہماری چیزوں کو آپ ختم کریں۔ اور پھر سندھ کا کلچر، جناب والا! ہمیں تو فخر ہے اپنے سندھ کے کلچر پر وہ تو بیمار محبت اور امن کا کلچر ہے وہ تو محبت کے گیت گانے والوں کا کلچر ہے وہ تو باہنیں پھیلا کر لوگوں کو خوش آمدید کہنے والوں کا کلچر ہے سندھ نے ہمیشہ محبت اور پیار کا درس دیا ہے۔ جناب والا! وہاں کبھی نفرت کی بات نہیں، ہوئی ہے۔ سندھ کی تاریخ گواہ ہے یہ نفرت کا تاریخ ہمارے ان دوستوں نے یہاں آکر بویا ہے جو باہر سے آئے اور اپنی ثقافت کو یہاں ہم پر ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان سے یہ اپیل کریں گے آپ کے توسط سے اس فیڈریشن کو represent کرنے والے باؤس کے توسط سے کہ خدارا آپ سندھ کی تہذیب کو اس طرح تہس نہس کرنے کے منصوبے نہ بنائیں۔ سندھ کی زبان کو ختم کرنے کی باتیں آپ نہ کریں۔ سندھ کے مقامی لوگوں پر اپنے تسلط کو جانے کی آپ لوگ کوشش نہ کریں۔ کیونکہ اس سے تلخیاں بڑھیں گی اور اس سے مسائل پیدا ہوں گے، مسائل گھٹیں گے نہیں۔ اور سندھ کے اندر جناب والا! یہ تو تاریخ گواہ ہے۔ جب مہاجرین پاکستان میں آئے ہیں کسی بھی جگہ آپ ان کو بے ادب دیکھے گا وہ گھوم پھر کر اچھی اور حیدرآباد ہی آتے ہیں اور حیدرآباد اور کراچی اس وقت مسائل کے شہر بنے ہوئے ہیں۔ کراچی میں پینے کا پانی نہیں ملتا وہاں بجلی کی کمی ہے وہاں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے وہاں ریٹائٹس کے مسائل ہیں تو آپ جب اپنے لوگوں کے مسئلے حل نہیں کر سکے تو کس طرح سے آپ یہ اضافی بوجھ برداشت کرنے پر تے ہوئے ہیں۔

جناب والا! ایک محاط اندازے کے مطابق ۱۹۸۲ء میں جو ایک ہوا تھا۔ ان ہزاروں کا اس کے مطابق پانچ لاکھ بیستیس ہزار بہاری ایسے تھے جنہوں نے ریڈ کراس میں اپنے آپ

کو رجسٹر کرایا تھا۔ اور اس کے بعد ایک لاکھ اہتر ہزار بہاری اس وقت repatriate

ہوئے تھے۔ پاکستان میں اور ان فکڑ کے مطابق تین لاکھ چھیاسٹھ ہزار بہاری باقی وہاں رہ گئے۔ لیکن یہ بات ہے ۱۹۷۳ء کی۔ آج ہم ۱۹۸۹ء میں ہیں۔ تو اس حساب سے کم از کم آج بھی ان کا تعداد اگر ہوگی تو سات اور دس لاکھ کے قریب ہوگی۔ اور اگر سات اور دس لاکھ کے قریب بہاری آپ اس وقت پاکستان لے آئے اور ان کو کراچی اور حیدرآباد میں بسایا تو میں

سمجھتا ہوں۔ بنیاد والا یہ تو اس طرح ہوگا کہ It will be adding fuel to the fire

کراچی اور حیدرآباد پہلے سے آگ کے شعلوں میں پلٹے ہوئے ہیں۔ اگر دس لاکھ ہاجرین اور لاکھ آپ ان کے سروں پر مسلط کر دیں گے تو وہاں اورسانی مسائل ہوں گے۔ وہاں اور ethnic problems ہوں گی ان کو روزگار میسر نہیں ہوگا۔ تو ظاہر ہے انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنا روزگار حاصل کرنے کے لئے تنگ و دوکرتا ہے۔ وہ ماتھ پاؤں مارتا ہے اور جب وہ ماتھ پاؤں مار کر روزگار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر مقامی آبادی پر پڑے گا اور

اس سے مزید نفعی جنم لیں گی۔ پہلے آپ اپنے لوگوں کو تو rehabilitate

کہئے۔ پہلے آپ کے پرانے جو پاکستان کے باشندے ہیں ان کو روزگار فراہم کیجئے ان کی فلاح و بہبود کی تواریت کیجئے۔ کہاں آپ یہاں بہاریوں کا مسئلہ لے کر بیٹھ گئے ہیں وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مسئلہ اگر بین الاقوامی لیول پر لیں تو بہت سارے ممالک ہیں جو ان کو قبول کرنے پر تیار ہوں گے اگر اسلامی جذبے کے تحت اس مسئلہ کو حل کرنا ہے تو ماشاء اللہ

مسلم دنیا کے ہم سے بہت زیادہ امیر ممالک بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی طرف ان کو لے جائیں اور ان کے لئے وہاں مواقع پیدا کریں تاکہ اسلام کا بول بالا ہو ان کا بھی بھلا ہو اور ان کی بھی نیک نامی ہو جائے گی۔ تو یہ ہم مزید جوں پر کیوں مصیبت ڈالے جانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ جناب والا: ہم اخبارات میں آئے روز دیکھتے ہیں کہ کبھی پندرہ کا قافلہ حیدرآباد میں گرفتار ہوا کبھی چالیس بہاری گرفتار ہوئے۔ حیدرآباد میں یہ بہاریوں

[Mir Hazar Khan Bijarani]

کی آمد شروع ہے یہ تسلسل سے ہماری اس سرزمین میں آرہے ہیں۔ لیکن حکومت ان پیمروں کا نوٹس نہیں لیتی آج کے اخبار میں بھی ایک خبر چھپی ہے کہ سو سے زائد بھاری جہازوں سے کراچی ایکسپریس کے ذریعے کراچی روانہ ہو گئے۔ اللہ پتر جانے کہ خبر درست ہے یا خبر میں کوئی صداقت نہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس قسم کی ٹولیاں پاکستان میں داخل ہوتی رہی ہیں۔ اور وہ ناجائز طریقوں سے غلط طریقوں سے سندھ میں داخل ہوتی رہی ہیں۔ آپ کے توسط سے حکومت دفن سے پر زور اپیل کروں گا کہ حذر اراہہ آنکھیں کھولے اور اس غیر قانونی داخلے کو چیک کرے جب یہ ایک اتنا حساس مسئلہ پہلے موجود ہے تو پھر یہ کیوں اجازت دیا جا رہا ہے آنکھیں بند کر کے حکومت کیوں بیٹھتی ہے کہ جس کا بھی چاہے وہ سندھ کا بارڈر کراس کر کے سندھ کا سرزمین میں داخل ہو جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔

جناب والا۔ ہم کس کس کا رونا دہناں روئیں ہمارے ہاں تو ۱۵ سے ۲۰ لاکھ اس وقت بھی برما کے باشندے موجود ہیں۔ وہاں نیگالی موجود ہیں وہاں افغان موجود ہیں۔ وہاں ایرانی موجود ہیں یعنی جو کہیں کسی ملک سے نکلتا ہے وہ سیدھا سندھ میں آکر پہنچتا ہے آخر سندھ کو یتیم خانہ سمجھا ہوا ہے سب نے آخر کیوں لوگ سندھ کے حالات کو بگاڑنے کے درپے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں کا نوٹس لے اور میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح اب افغانستان کی جنگ ختم ہو چکی ہے اور روسی سپاہی وہاں سے واپس جانے والے ہیں چند روز میں وہاں سے نکل جائیں گے تو جس دن افغان سرزمین سے روسی سپاہی نکل جاتا ہے اس دن سے افغان مہاجرین کا پاکستان کا سرزمین پر رہنے کا جواز ختم ہو جاتا ہے اور ان تیس لاکھ مہاجرین کو فوری طور پر اپنی سرزمین پر جانا چاہیے۔ جناب والا وہاں کس کی حکومت بنتی ہے کون وہاں حکمران ہوتا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہم اس وقت ان کی مہانداری کرنے کے ذمہ دار تھے۔ جب تک وہاں پر روسی موجود تھے ان کا حملہ تھا۔ اور یہ وہاں واپس نہیں جاسکتے تھے۔ اب اپنی سرزمین پر جائیں ہم نے ان کی مہانداری کی جو ہم سے ہو سکا ہے وہاں جا کر اپنے مسائل اپنی سرزمین پر حل کریں ہم پر

بروجھ نہیں بنیں اب اتنی بھی مروت نہیں ہوتی ہم زندگی بھران کا بوجھ تو نہیں اٹھا سکتے۔ یہی افغان کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے مسائل ان کی وجہ سے یہاں پیدا ہوئے ہیں میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا لیکن یہ بھی گزارش کروں گا کہ جہاں یہ تیس لاکھ افغانیوں کا مسئلہ ہے وہاں ۱۵ سے ۲۰ لاکھ غیر قانونی طریقوں سے آئے ہوئے ایرانی ہمارے پاس موجود ہیں برمی ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہاں بنگالی ہمارے پاس موجود ہیں۔ بہاری ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان سب کو چیک کریں یا تو ان سب کو کیمپوں میں ڈال کر رکھیں اور پھر ان کو قانونی طور پر اپنے اپنے ملک واپس بھیجیں یہ کیا آپ بات لے بیٹھے ہیں کہ ہم مزید دس لاکھ سفارتوں کو سندھ میں لائیں گے۔ یا پاکستان میں لے آئیں گے۔

جناب والا! یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسئلے کو سمجھا نہیں جاتا سندھ کے کیس کو بھردی سے دیکھا نہیں جاتا میں گزارش کروں گا اپنے اردو بولنے والے ان سب بھائیوں سے کہ بھائی آپ ہم سے الگ نہیں۔ ہم آپ سے الگ نہیں آپ نے بھی یہاں مرنے سے نہ آپ سندھ چھوڑ کر جائیں گے، نہ ہم سندھ چھوڑ کر جائیں گے تو ہمیں مل جل کر ایک نئے عمل بنانا ہوگا۔ آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنا ہوگا۔ اور اس قسم کے اختلافی مسائل کو اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اپنے تعلقات مزید بگاڑیں اور اپنی شہری اور دیہی آبادی کی تینوں کو مزید بڑھاویں یہ کتنی ستم ظریفی ہے جناب چیئرمین، کہ موجودہ ایکشن میں آپ نے دیکھ لیا کہ شہروں کی آبادی نے تو ایک طرح سے ایک trend میں دوڑ دیا اور ایم کیو ایم کو کامیاب کیا۔ جہاں کسی اور کی کامیابی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی اور دیہی آبادی نے اپنا ایک سندھی trend دکھایا تو یہ ایک segregation

جو آپس میں ہوئی ہے سندھ کی آبادی کی دیہی اور شہری کی یہ ایک بڑی خطرناک علامت ہے اس کو lightly نہیں لیا جانا چاہیے یہ آگے چل کر ہماری اس نینڈریشن کے لئے بہت بڑا مسئلہ بن سکتی ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے جہاں ہم اس مسئلے کی طرف توجہ نہیں دیتے وہاں ہم دوسری معمولی باتیں اور دوسروں کے مسئلوں کو اپنے گلے ڈالنے کا

[Mir Hazar Khan Bijarani]

باتیں کرتے ہیں۔ دوسروں کے مسائل اپنی سرزمین پر لا کر حل کرنے کا کوشش کرتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نہیں چاہتے کہ مندر میں ہمارے ہاں یہ بیماری آئی اور ہمارے مسائل کو اور الجھائیں۔ اس وقت بھی جناب والا ۲۵ فیصد آبادی سندھ کی ہے جو سندھی بولی ہے اور ۲۸ فیصد بھوہر ہیں وہ غیر سندھی بولنے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا کم مارجن رہ گیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا سٹیٹس Mexions جیسا یا Red Indians جیسا ہو خدا را ہمیں اس سٹیٹس سے اس حیثیت سے بچائیے۔ میں دردمندانہ اپیل کروں گا۔ آپ کے توسط سے اس ناؤس سے اور ناؤس کے باہر جتنے قائدین ہیں اور حکومت وقت سے کہ وہ ہماری ان مجبوریوں کو سمجھیں اور ہمارے ان مسائل کو سمجھیں اور ایسے سٹلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ سندھ کے اندر مزید کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا آپ کا بہت بہت شکریہ۔

ڈاکٹر بشارت الہی جناب والا! میں ایک وضاحت چاہوں گا۔ میرے فاضل درست نہ کچھ بتایا تھا۔ کہ ۱۹۷۳ یا ۱۹۸۸ میں کچھ لوگ repatriate کئے گئے تھے تو میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کیوں repatriate ہوئے تھے باقی کیوں وہاں رو گئے۔ میر نزار خان بیلانی! جناب والا! یہ تو وفاقی حکومت ہی بتا سکتی ہے یا وہ بتا سکتے ہیں جو اس وقت حکمران ہیں۔ مجھے جزو فکر نہ ملے تھے یہی فکر زبان کئے ہیں۔

(Interruptions)

Mr. Deputy Chairman: The information can be obtained from the Government.

(Interruptions)

Mr. Deputy Chairman: No. No. I would not allow any debate on this point. The information can be obtained from the Government. Yes Mr. Javed Jabbar you want to speak. (Pause)

میر نزار خان! اس کو پونے دو بجے تک چلا لیتے ہیں کیوں کہ ابھی ۱۸۔ معزز اراکین نے یوں کہا ہے اور ابھی تین حرکتیں بھی تھایا ہیں اور کل بھی ختم نہیں ہوگا۔

جناب جاوید جبار: پہلے محرکین بول لیں۔  
جناب ڈپٹی چیئرمین: اس وقت کوئی محرک موجود نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے۔

جناب جاوید جبار: نیکسٹ سٹنک پر لے لیں کل کر لیں۔  
جناب ڈپٹی چیئرمین: محمد علی خاتما جب اس میں چونکہ کچھ نام زیادہ لگے گا تو رول کو  
suspend کرنے کے لیے move کرنا پڑے گا۔

جناب محمد علی خان: کل کر لیں گے۔

Mr. Deputy Chairman: O.K. The House is adjourned to meet  
tomorrow the 15th February, 1989, at 10.00 a.m. Thank you.

[The House adjourned to meet again at ten of the clock in the  
morning on Wednesday, the 15th February, 1989].

۱۔ میں نے اس بارے میں  
 ۲۔ کئی بار کابینہ کے  
 ۳۔ اعضاء سے گفتگو کی ہے  
 ۴۔ اور ان سے یہ جاننے کا  
 ۵۔ مقصد ہے کہ حکومت  
 ۶۔ کے پاس اس مسئلے کے  
 ۷۔ حل کے لیے کیا اقدام  
 ۸۔ ہیں اور ان کے  
 ۹۔ تعمیراتی کاموں کے  
 ۱۰۔ لئے کیا رقمیں  
 ۱۱۔ مقرر ہیں۔

Mr Deputy Chairman: O.K. The House is adjourned to meet tomorrow the 15th February 1989, at 10.00 a.m. Thank you.

[The House adjourned to meet again at 10.00 a.m. on the morning of Wednesday, the 15th February, 1989.]